

بینک چارجز کاشیڈول

(FED اور سیلنز ٹیکس کے علاوہ)

یکم جولائی 2025 تا 31 دسمبر 2025

Soneri Bank Limited

Central Office: 10th Floor, PNSC Building,
M.T. Khan Road, Karachi - 74000, Pakistan
UAN: 021-111-567-890

🏦 560+ Branches in 225+ Cities

☎ 021-111-SONERI (766374) 🌐 www.soneribank.com

📱 Soneri Digital 📺 SoneriBankPK 📺 SoneriBank_Pk

📺 soneribankLtd 📺 SoneriBankOfficial 📺 soneribankLtd

فہرست

صفحہ نمبر

03	بین الاقوامی بینکنگ
03	A درآمدات
03	لیٹر آف کریڈٹ
05	B برآمدات
05	لیٹر آف کریڈٹ
06	کلکیشن
08	C ترسیلات زر (غیر ملکی کرنسی)
08	اخراج زر
08	آمد زر
08	D کلکیشن (غیر ملکی کرنسی)
08	اخراج زر
08	آمد زر
08	E متفرق
08	ڈاک / کوریئر / سوئفٹ / انکس چارجز
08	سوئفٹ
09	فنانسنگ
09	A اسلامی طریقوں کے تحت فنانسنگ لمٹ کی پروسیدنگ کیلئے درج ذیل چارجز وصول کئے جاسکتے ہیں
09	قانونی چارجز
10	B کارپوریٹ / کمرشل / ریشیل / ایس ایم ای فنانس: (نیا / تجدید / توسیع)
10	کمرشل / ریشیل / ایس ایم ای فنانس
10	کارپوریٹ فنانس
10	C اسلامی طریقوں کے مطابق فنانسنگ کیلئے سکیورٹی کے طور پر ضمانت / رہن
11	D زرعی فنانس
11	پروسیڈنگ فیس
11	E صارف فنانس
11	سونییری کاراجارہ فنانس
11	سونییری مستقیم گھر فنانس
11	سونییری میرا پاکستان میرا گھر (MPMG)
11	F کاروں / گاڑیوں کی کمرشل فنانسنگ
12	G ضمانتیں
16	مقامی بینکنگ
16	A ملکی تجارت
16	ملکی لیٹر آف کریڈٹ
17	چیک / کوکیش کروانے کا اختیار
18	B بلز
18	وصولیاں
18	دستاویزات کے بلز / ملکی ایل بیز (LCs) کے عوض ہوں گے
18	C ترسیلات زر (مقامی کرنسی)
18	بینکرز چیک
18	سکیورٹی ڈپازٹ رسید
18	کلکیشن / اکاؤنٹس
18	پریزم سسٹم (RTGS) کے ذریعے فریق ثالث کے فنڈ کی منتقلی کا حتمی تصدیق
19	راست (SNBL کی برانچ سے OTC ٹرانسفر)
19	آن لائن بینکنگ

19	کلیئرنگ اینڈ گلکشن
19	D سکیورٹیز کی خرید و فروخت، محفوظ ڈپازٹ میں اشیاء کی محفوظ تحویل اور محفوظ ڈپازٹ لاکرز
19	شیر اور سکیورٹیز کی خرید و فروخت
20	F فراہمی کے متبادل ذرائع (ADC Channels)
20	سوئیری ڈیٹ کارڈ (ماسٹر کارڈ / پے پاک)
20	ڈیجیٹل بینکنگ (انٹرنیٹ، موبائل اور فون بینکنگ)
20	ایس ایم ایس الارٹ چارجز
20	G سرمایہ کاری پورٹ فولیو سکیورٹیز (IPS) اکاؤنٹ
20	سرمایہ کاری پورٹ فولیو سکیورٹیز ٹرانزیکشنز (صلوک)
20	صلوک کوین کی ادائیگی
20	IPS گوشوارے
20	H ابلاغ
20	سٹاک چارجز
20	ڈاک کے چارجز
21	کوریر چارجز
21	I برانچ بینکنگ
21	چیک بک چارجز
21	فارم B اور C پر چیک بک اجراء
21	خصوصی طور پر پرنٹ کی گئی چیک بک
21	چیک کی ادائیگی روکنا
21	اکاؤنٹ اسٹینٹ
22	J کیش منجمنٹ سروسز - کارپوریٹ اور سرمایہ کاری بینکنگ
22	سوئیری ٹرانزیکٹ
22	فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ
22	K اسٹاف سٹوری اکاؤنٹس
22	L جاری مستقیم
23	M راحت مستقیم

چارجز کا شیڈول
برائے مدت یکم جولائی 2025 تا 31 دسمبر 2025

بین الاقوامی بینکنگ				A	درآمدات
لیزر آف کریڈٹ a۔ سروں چارجز				i	
رقم سے	رقم تک	پہلی سرمایہ یا اس کا حصہ	بعد کی سرمایہ یا اس کا حصہ		
رقم	500,000	2,500	2,500		
500,001	800,000	2,600	2,500		
800,001	1,000,000	3,600	2,500		
1,000,001	1,500,000	5,000	3,125		
1,500,001	2,000,000	7,000	4,375		
2,000,001	2,500,000	9,000	5,625		
2,500,001	3,000,000	11,000	6,875		
3,000,001	3,500,000	13,000	8,125		
3,500,001	4,000,000	15,000	9,375		
4,000,001	4,500,000	17,000	10,625		
4,500,001	5,000,000	19,000	11,875		
5,000,001	5,500,000	21,000	13,125		
5,500,001	6,000,000	23,000	14,375		
6,000,001	6,500,000	25,000	15,625		
6,500,001	7,000,000	27,000	16,875		
7,000,001	7,500,000	29,000	18,125		
7,500,001	8,000,000	31,000	19,375		
8,000,001	8,500,000	33,000	20,625		
8,500,001	9,000,000	35,000	21,875		
9,000,001	9,500,000	37,000	23,125		
9,500,001	10,000,000	39,000	24,375		
10,000,001	12,500,000	39,375	22,500		
12,500,001	15,000,000	48,125	27,500		
15,000,001	17,500,000	56,875	32,500		
17,500,001	20,000,000	65,625	37,500		
20,000,001	22,500,000	74,375	42,500		
22,500,001	25,000,000	83,125	47,500		
25,000,001	27,500,000	91,875	52,500		
27,500,001	30,000,000	100,625	57,500		
30,000,001	32,500,000	109,375	62,500		
32,500,001	35,000,000	118,125	67,500		
35,000,001	37,500,000	126,875	72,500		
37,500,001	40,000,000	135,625	77,500		
40,000,001	42,500,000	144,375	82,500		
42,500,001	45,000,000	153,125	87,500		
45,000,001	47,500,000	161,875	92,500		
47,500,001	50,000,000	170,625	97,500		
50,000,001	52,500,000	179,375	102,500		
52,500,001	55,000,000	188,125	107,500		
55,000,001	57,500,000	196,875	112,500		
57,500,001	60,000,000	205,625	117,500		
60,000,001	62,500,000	214,375	122,500		
62,500,001	65,000,000	223,125	127,500		
65,000,001	67,500,000	231,875	132,500		
67,500,001	70,000,000	240,625	137,500		
70,000,001	72,500,000	249,375	142,500		
72,500,001	75,000,000	258,125	147,500		
75,000,001	77,500,000	266,875	152,500		
77,500,001	80,000,000	275,625	157,500		
80,000,001	82,500,000	284,375	162,500		
82,500,001	85,000,000	293,125	167,500		
85,000,001	87,500,000	301,875	172,500		
87,500,001	90,000,000	310,625	177,500		
90,000,001	92,500,000	319,375	182,500		
92,500,001	95,000,000	328,125	187,500		
95,000,001	97,500,000	336,875	192,500		
97,500,001	100,000,000	345,625	197,500		
100,000,001	102,500,000	172,125	101,250		

رقمے	رقم یک	پہلی سرمایہ یا اس کا حصہ	بھری سرمایہ یا اس کا حصہ
102,500,001	105,000,000	176,375	103,750
105,000,001	107,500,000	180,625	106,250
107,500,001	110,000,000	184,875	108,750
110,000,001	112,500,000	189,125	111,250
112,500,001	115,000,000	193,375	113,750
115,000,001	117,500,000	197,625	116,250
117,500,001	120,000,000	201,875	118,750
120,000,001	122,500,000	206,125	121,250
122,500,001	125,000,000	210,375	123,750
125,000,001	127,500,000	214,625	126,250
127,500,001	130,000,000	218,875	128,750
130,000,001	132,500,000	223,125	131,250
132,500,001	135,000,000	227,375	133,750
135,000,001	137,500,000	231,625	136,250
137,500,001	140,000,000	235,875	138,750
140,000,001	142,500,000	240,125	141,250
142,500,001	145,000,000	244,375	143,750
145,000,001	147,500,000	248,625	146,250
147,500,001	150,000,000	252,875	148,750
150,000,001	152,500,000	257,125	151,250
152,500,001	155,000,000	261,375	153,750
155,000,001	157,500,000	265,625	156,250
157,500,001	160,000,000	269,875	158,750
160,000,001	162,500,000	274,125	161,250
162,500,001	165,000,000	278,375	163,750
165,000,001	167,500,000	282,625	166,250
167,500,001	170,000,000	286,875	168,750
170,000,001	172,500,000	291,125	171,250
172,500,001	175,000,000	295,375	173,750
175,000,001	177,500,000	299,625	176,250
177,500,001	180,000,000	303,875	178,750
180,000,001	182,500,000	308,125	181,250
182,500,001	185,000,000	312,375	183,750
185,000,001	187,500,000	316,625	186,250
187,500,001	190,000,000	320,875	188,750
190,000,001	192,500,000	325,125	191,250
192,500,001	195,000,000	329,375	193,750
195,000,001	197,500,000	333,625	196,250
197,500,001	200,000,000	337,875	198,750
200* ملین روپے سے زیادہ کی تمام LC پر 1 ملین (یا اس کے حصے) پر -/1,700 روپے (پہلی سرمایہ) اور -/1,000 روپے (اگلی سرمایہ کیلئے) اضافی چارجز وصول کئے جائیں گے۔			
نوٹ: مندرجہ بالا سروس چارجز صارفین کے سالانہ حجم/قدروں اور انتظامات کی بنیاد پر مجاز اتھارٹی کی منظوری حاصل کرنے کے بعد ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہیں۔ اس شیڈول میں بیان کردہ سروس چارجز مختلف ملین دین پر بینک کی طرف سے پیش کی جانے والی مختلف قسم کی موثر/عوامی خدمات کیلئے ہیں۔ ہمارے شریعہ بورڈ کی رہنمائی کے مطابق محض کسی مالی وعدے یا ضمانت کے اجراء پر فیس/کمیشن وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم، اگر بینک کی طرف سے اضافی متعلقہ خدمات بھی پیش کی جاتی ہیں/انجام دی جاتی ہیں تو اسے فیس لینے کی اجازت ہے۔ شرعیہ بورڈ نے بینک کو دستاویزات، کرڈٹ کے اندازے، خط و کتابت، اکاؤنٹس کی دیکھ بھال، نگرانی وغیرہ جیسی تمام سہولیات سے متعلق خدمات کیلئے فیس وصول کرنے کی اجازت دی ہے۔			
b۔	میں عا د ختم ہونے والی LCs کی دو بارہ توثیق کے سروس چارجز	جیسا کہ نئے لیڈ آف کرڈٹ کھولنے کیلئے قابل اطلاق ہے، جیسا کہ اوپر (i-a) میں ہے۔	
c۔	نئی عتیق شری کوئرا سٹر کرنا	جیسا کہ نئے لیڈ آف کرڈٹ کھولنے کیلئے قابل اطلاق ہے، جیسا کہ اوپر (i-a) میں ہے۔	
d۔	100% مارجن کے عوض LC/ معاہدے کے قیام پر کمیشن	LC کیلئے 20% مقررہ معاہدے کیلئے 0.15% مقررہ	
e۔	بارڈر/ AID کے تحت ادائیگی نہ ہونے والی LC	پہلی سرمایہ کیلئے 1% کمیشن، بعد میں ہر سرمایہ کیلئے 0.30% کم از کم -/1500 روپے	
ii	لیڈ آف کرڈٹ کے تحت Usance پر نکالے گئے بلز علاوہ PAYES (جیسے آپ سکتے ہیں ادائیگی کریں اسکیم) اور سلاز/خریدار	0.25% یا -/2,000 روپے جو بھی زیادہ ہو، ان کیسوں کی ریٹائرمنٹ کے وقت وصول کیا جائے گا جو LC کے دنوں کی تعداد LC کی میعاد کی تاریخ سے ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک سے باہر ہیں۔ تاہم، اگر بلوں کی میچورٹی/ ادائیگی کی مدت اس مدت میں آتی ہے جس کیلئے LC کھولنے کا کمیشن پہلے ہی وصول کیا جا چکا ہے تو کوئی کمیشن نہیں لیا جائے گا۔	
iii	کھولنے کے اختتام پر اندرونی LCs (USANCE BILL) کیلئے جاری کئے گئے دستاویزی بل a۔ اگر بل LC کی میعاد ختم ہونے کے بعد میچور ہوتا ہے	0.10% یا -/2,000 روپے جو بھی زیادہ ہو، ان کیسوں کی ریٹائرمنٹ کے وقت وصول کیا جائے گا جو LC کے دنوں کی تعداد LC کی میعاد کی تاریخ سے ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک سے باہر ہیں۔ تاہم، اگر بلوں کی میچورٹی/ ادائیگی کی مدت اس مدت میں آتی ہے جس کیلئے LC کھولنے کا کمیشن پہلے ہی وصول کیا جا چکا ہے تو کوئی کمیشن نہیں لیا جائے گا۔	
b۔	اگر مقررہ تاریخ کے بعد بل ادائیگی ہوتا	ہر -/1,000 روپے پر 50 پیسے ہر روز بطور صدمہ یا حقیقت پر مبنی شک کے مطابق	

iv	ترمیم	-/2,200 روپے فی ٹرانزیکشن (مقررہ) یا مندرجہ بالا (a) کے تحت رقم سروس چارجز، اگر تہذیبی رٹ میں اضافہ یا سپینٹ کی مدت میں توسیع سے متعلق ہو۔
v	لیٹر آف کریڈٹ کے تحت درآمدی بل	مراجم کے تحت کسٹمر سے انتظامات کے مطابق
vi	LC کی تیئیس کے سروس چارجز	-/2,500 روپے فی LC علاوہ پلس سوئفٹ چارجز
vii	ادائیگی کے بغیر واپس ہونے والے درآمدی بل	فارورڈنگ بینک سے مقررہ -/100 ڈالرہ علاوہ کوریئر کے اخراجات
viii	LC ڈرافٹ پر ویسیٹ چارجز - ان کسٹرز کیلئے جو بعد میں اہلی ہی نہیں کھولتے	-/2,500 روپے فی LC اپ فرنٹ (مندرجہ بالا i-a کے علاوہ)
ix	a - دستاویزات جمع کرنا	کسٹمر کے بکیشن، کنٹینٹ اور ایڈوانس ادا ہونے کے تحت تمام درآمدی بلوں کیلئے مقررہ -/1,800 روپے
	b - درآمدی معاہدے کی رجسٹریشن	0.20% کم از کم -/2,500 روپے
	c - درآمدی معاہدے میں ترمیم اگر AMT یا مدت میں اضافہ پڑتی ہو	درآمدی معاہدے کی رجسٹریشن کے مطابق صرف اضافی رقم پر رجسٹریشن میں ہر بعد کی ترمیم پر -/1,250 روپے
	x	درآمد کنندگان کی مخصوص ہدایات کے مطابق کراچی سے ڈرائی پورٹس پر کنٹینٹ کی نقل و حمل کو منظم کرنے کیلئے خدمات کی قیمت
xi	LC / ایڈوانس ادا ہونے کے ساتھ یا اس کے بغیر درآمد کیلئے درآمدی ٹرانزیکشن پر سروس چارجز جیسے درآمدی بلز (PAD) / بکیشن (IB) / کسٹریکٹ ایڈوانس / منسٹ اور کنٹینٹ / منسٹ ریمیٹنس	فی ٹرانزیکشن 0.15% کم از کم -/1,500 روپے
xii	PSW میں FI کا اجراء *	-/150 روپے فی اجراء
xiii	دوسرے بینکوں کو PSW میں FI کا ٹرانسفر	-/750 روپے پر مقررہ فی ٹرانسفر
xiv	ری الیمبر سمٹ کے چارجز ری الیمبر سنگ بینکوں کو ادا کرنا	اصل قیمت
xv	غیر ملکی سپلائر / وینڈر پر کریڈٹ رپورٹس حاصل کرنا	(a) غیر ملکی خریدار سپلائر / وینڈر پر 75 ڈالر یا اس کے مساوی روپے سروس چارجز (b) غیر ملکی بینکوں کو ان کی درخواست پر 100 ڈالر غیر ملکی بینکوں سے علاوہ سوئفٹ چارجز
xvi	سوئفٹ کے ذریعے غیر ملکی بینکوں سے حصول	(c) کسٹمر کی درخواست پر غیر ملکی بینکوں کو -/750 روپے
xvii	اختلافی دستاویزات پیش کرنے پر تضاد کی فیس	-/100 ڈالر یا اس کے برابر روپے
xviii	PAD مراجم پر منافع	کریڈٹ کی منظوری کے مطابق 3 ماہ Kibor بمع 5%
xvix	15 دن کے بعد دستاویزات رٹائر ہونے کی صورت میں، بینک کمیشن کے ساتھ PAD زائد الیمبر منافع وصول کیا جائے گا۔ (تصفیہ سے پہلے موصول ہونے پر کریڈٹ کی منظوری میں توسیع شدہ مدت کے بعد کے دنوں پر لاگو) ہے یہ امر اس/مساوہ کی قیمت میں شامل ہوگا۔	پندرہویں دن پر واجب الادا PAD بٹنس پر 0.25%
نوٹ: * مندرجہ بالا سروس چارجز صارفین کے سالانہ حجم / ویلیوز اور انتظامات کی بنیاد پر مجاز تھارٹی کی منظوری حاصل کرنے کے بعد ایڈجسٹ سے مشروط ہیں۔ * اس شیڈول میں بیان کردہ سروس چارجز مختلف لین دین پر بینک کی طرف سے پیش کی جانے والی مختلف قسم کی موثر / عرضی خدمات کیلئے ہیں۔ * ہمارے شریعہ بورڈ کی رہنمائی کے مطابق محض کسی مالی وعدے یا ضمانت کے اجراء پر فیس / کمیشن وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ * تاہم، اگر بینک کی طرف سے اضافی متعلقہ خدمات بھی پیش کی جاتی ہیں / انجام دی جاتی ہیں تو اسے فیس لینے کی اجازت ہے۔ * شریعہ بورڈ نے بینک کو دستاویزات، کریڈٹ کے اندازے، خط و کتابت، اکاؤنٹس کی دیکھ بھال، نگرانی وغیرہ جیسی تمام سہولیات سے متعلق خدمات کیلئے فیس وصول کرنے کی اجازت دی ہے۔		
B برآمدات		
i	لیٹر آف کریڈٹ (a) ایڈوانسنگ	کسٹمر کیلئے -/2,000 روپے نان کسٹمر کیلئے -/3,000 روپے اس کے ساتھ ساتھ سوئفٹ اور کوریئر چارجز
	(b) ترمیم	-/1,500 روپے برائے کسٹمر -/3,000 روپے برائے نان کسٹمر علاوہ سوئفٹ اور کوریئر چارجز (جو بھی لاگو ہو)
	(c) تصدیق	0.40% فی سرمایہ کم از کم -/1,500 روپے علاوہ سوئفٹ اور کوریئر چارجز (جو بھی لاگو ہو)
	(d) برآمدی L/C کی منسوخی	-/2,200 روپے فی ٹیس علاوہ سوئفٹ چارجز
	(e) برآمدی LCs کا ٹرانسفر	-/1,500 روپے علاوہ سوئفٹ اور / یا ڈاک چارجز -/12,500 روپے مقررہ اگر دستاویزات کے متبادل کے ساتھ ہو تو سوئفٹ اور / یا ڈاک کے چارجز

		(f) L/Cs کے ٹرانسفر کے تحت برآمدی دستاویزات کی پینڈنگ	-/100 ڈالر فی دستاویز
		(g) نان ریزیزنٹ روپنی اکاؤنٹس سے دیگر غیر ملکی بینکوں کو/ سے ری البمر سمٹ سمٹ	-/750 روپے (مقررہ)
ii		اگر ممنوعہ لیٹرز آف کریڈٹ کے تحت دستاویزات گفت و شنید کیلئے دوسرے بینکوں کو بھیجی جائیں	-/1,200 روپے مقررہ پینڈنگ چارجز سروس چارجز
iii		IERF درخواست - پینڈنگ چارجز IERF متبادل	-/1,000 روپے فی درخواست -/750 روپے فی کمپس (اگر ایک کمپس کے تحت متعدد شپنگ دستاویزات منسلک ہوں)
iv		EE سرٹیفیکیشن فی کمپس	-/1,250 روپے فی کمپس
v		IERF اسکیم کے تحت دوسرے بینکوں کو جاری کردہ EE NOC	-/1,500 روپے فی کمپس
vi		زامد ادا کیا دوا برآمدی بلوں کی رپورٹنگ کیلئے پینڈنگ اور سروس چارجز	تمام واجب الادا بلوں کیلئے -/1,500 فی بل
vii		بغیر ادا کی گئی واپس ہونے والے برآمدی بل	-/1,800 مقررہ فی ٹرانزیکشن
viii		"E" فارم کے نقصان کی سرٹیفیکیشن (بینک کے اپنے سٹمٹ سے قابل وصولی)	-/1,000 روپے
ix		PSW فیٹا کا اجراء	-/150 روپے فی اجراء
x		دوسرے بینکوں کو PSW فیٹا کا ٹرانسفر	-/700 روپے مقررہ فی ٹرانسفر
xi		اوپن اکاؤنٹ کی بنیاد پر FI کی تیاری	-/1,200 روپے مقررہ
xii		دوسرے بینکوں کو رقم کی تقویض	-/1,200 روپے علاوہ سوئفٹ
xiii		کاروباری کارکردگی سرٹیفیکیشن	-/1,250 روپے فی سرٹیفیکیشن
xiv		بیٹھی ادا کی گئی کیلئے شپنگ کی تاریخ سے 90 دنوں کے بعد برآمد کنندگان کے خلاف شپنگ دستاویزات جمع کروانا	-/500 روپے فی شپنگ دستاویز
xv		وصولیاں (a) برآمدی دستاویزات کی پینڈنگ (LC اور کنٹرول کی بنیاد پر وصولی پر بھیجا گیا) بیٹھی ادا کی گئی	بل کی رقم کا 0.15% کم از کم -/2,500 روپے علاوہ سوئفٹ چارجز اگر کوئی ہوں۔ بل کی رقم کا 0.15% کم از کم -/1,500 روپے
		(b) کلکیشن کیلئے غیر ملکی بل (کلین / دستاویزی) کی بلا ادا کی گئی واپسی	-/100 ڈالر علاوہ کوریئر چارجز اور/یا سوئفٹ چارجز، اگر کوئی ہوں۔
		(c) اگر افغانستان اور وسطی ایشیائی جمہوریہ کو برآمدات کی ادا کی گئی/بیٹھی ادا کی گئی 1FCY اکاؤنٹس میں کارکنی نوٹوں/پاکستانی روپے میں نکشیت جمع کی جاتی ہے	ایف سی وائی نوٹوں میں سرینڈر ہونے والی رقم کا 0.70%
		(d) شپنگ کی تاریخ سے 90 دن سے زیادہ کی بیٹھی ادا کی گئیوں پر برآمد کنندہ کی طرف سے شپنگ دستاویزات جمع کروانا	625 روپے فی شپنگ دستاویز
xvi		غیر ملکی سلاٹز/ویڈر سے کریڈٹ رپورٹس حاصل کرنا	(a) غیر ملکی خریدار/سلاٹز/ویڈر -/75 ڈالر یا روپے میں مساوی جمع -/600 روپے پروسیڈنگ/سروس چارجز (b) غیر ملکی بینکوں کو ان کی درخواست پر - غیر ملکی بینکوں سے 100 ڈالر علاوہ سوئفٹ چارجز (c) غیر ملکی بینکوں سے کسٹمر کی درخواست پر -/35 ڈالر یا اس کے مساوی پاکستانی روپے اس کے ساتھ ساتھ سوئفٹ چارجز
xvii		تبادلے کی آمدنی کے بدلے میں پینڈنگ اور سروس چارجز جہاں ایک برآمد کنندہ کسی دوسرے بینک کو زرمبادلہ فروخت کرتا ہے۔ جبکہ دستاویزات ہمارے ذریعے وصولی کیلئے بھیجی جاتی ہیں۔	0.10% کم از کم -/1,200 روپے
xviii		ہم سے حاصل کردہ IERF ٹرانزنگ جبکہ برآمد دوسرے بینک کے ذریعے کی جائے	-/2,500 روپے فی کمپس
xix		ایکسپورٹ ری فنانس درخواست - (EFS) کے تحت روپے کی بنیاد پر ڈسکاؤنٹنگ (سمیت) - پینڈنگ چارجز - ERF متبادل (اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایگزیم بینک کے تحت)۔	-/1,250 روپے فی درخواست
xx		بیٹھی ادا کی گئی / دستاویزات کی پینڈنگ / بل آف لیڈنگ کی توثیق	-/600 روپے
xxi		B/L کے سرینڈر / نقصان کی صورت میں شپنگ کمپنیوں کو NOC جاری کرنا	-/1,000 روپے
xxii		برآمدی رقم کی دوسرے بینک میں منتقلی جہاں ہماری طرف سے کسی دستاویزات کی پینڈنگ نہیں	-/1,500 روپے علاوہ سوئفٹ چارجز
xxiii		ڈیوٹی ڈرا بینک گیمز کی پینڈنگ	(a) 0.35% کم از کم روپے -/1,000 فی کلیم (ایس بی پی سے کلیم موصول ہونے پر وصول کیے جائیں گے) (b) اسٹیٹ بینک کی جانب سے کلیم سے انکار یا دوبارہ جمع کرانے کی صورت میں -/1,500 روپے مقررہ وصول کیے جائیں گے

xxiv	ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سپورٹ کے کلیمز پر کارروائی کرنا-SBP	(a) 0.50% کم از کم روپے/-1,000 فی کلیم (ایس بی پی سے کلیم موصول ہونے پر وصول کئے جائیں گے) (b) اسٹیٹ بینک کی جانب سے کلیم سے انکار یا دوبارہ جمع کرانے کی صورت میں-1,500 مقررہ وصول کئے جائیں گے
xxv	ایک سپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کی وصولی	-/100 روپے فی فرانزیکشن برآء مڈکنڈگان سے وصول کیا جائے گا
xxvi	اگر برآمدات کی ادائیگی/پیشگی ادائیگی افغانستان کو جمع کرائی جائے	0.15% برائے کرائی کم از کم-500 روپے
xxvii	ایف سی اکاؤنٹس میں ایف سی وائی ٹو/س پاکستان روپے میں انکیسٹ	0.25% دیگر شہروں کیلئے کم از کم روپے-500 فرانزیکشن
xxviii	دوسرے بینک کو بھیجا گیا کسی بھی قسم کا خط یا اطلاع	-/750 روپے فی کیس
نوٹ: ہماری طرف سے منظور شدہ/ (WeBOC) EFE دوسرے بینکوں کو جاری کردہ (PSW) کیلئے NOC کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شیڈول میں بیان کردہ سروس چارجز مختلف لین دین پر بینک کی طرف سے پیش کی جانے والی مختلف قسم کی موثر/غرضی خدمات کیلئے ہیں۔ ہمارے شریعہ بورڈ کی رہنمائی کے مطابق محض کسی مالی وعدے یا ضمانت کے اجراء پر فیس/انکیسٹ وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم، اگر بینک کی طرف سے اضافی متعلقہ خدمات بھی پیش کی جاتی ہیں/انجام دی جاتی ہیں تو اسے فیس لینے کی اجازت ہے۔ شرعیہ بورڈ نے بینک کو دستاویزات، کریڈٹ کے اندازے، خط و کتابت، اکاؤنٹس کی دیکھ بھال، مگرانی وغیرہ جیسی تمام سہولیات سے متعلق خدمات کیلئے فیس وصول کرنے کی اجازت دی ہے۔		
xxix	بالواسطہ برآء مڈکنڈگان کے لین دین کا انتظام (SPO)	-/300 روپے فی کیس
xxx	فریٹ سہسڈی کیلئے درخواست جمع کروانا	(a) کم از کم روپے/-1,000 فی کلیم (ایس بی پی سے کلیم موصول ہونے پر وصول کئے جائیں گے) (b) اسٹیٹ بینک کی جانب سے کلیم سے انکار یا دوبارہ جمع کرانے کی صورت میں-1,500 مقررہ وصول کئے جائیں گے
xxxi	پروسیڈر ریگولیشن سرٹیفیکیشن کا اجراء (تھیمہ: A) چھوٹے کلیمز کیلئے	-/625 روپے فی سرٹیفیکیشن
xxxii	FX ٹرانزیکشنز یا کسی اور مقصد کیلئے اسٹیٹ بینک کی منظوری حاصل کرنا	-/1,850 روپے فی کیس
xxxiii	ڈیجیٹل ایڈوائسز PRC وغیرہ	-/700 روپے فی آپریشن
xxxiv	تصادفی فیس، اگر اختتامی دستاویزات پیش کی جائیں	-/100 ڈالر (یا دیگر کرنسی میں مساوی) بشمول FED درآمدی بلوں کی آمدنی سے منہا کئے جائیں گے جہاں قابل اطلاق ہو، یا اگر رقم پہلے واپس کر دی گئی ہے تو پیش کرنے والے بینک سے وصول کئے جائیں گے۔
xxxv	آمدنی کا تبادلہ جہاں درآمد کنندہ کھولی گئی LC / ہمارے ساتھ رجسٹرڈ معاہدے کے تحت کسی دوسرے بینک سے فارن ایکسیچج خریدتا ہے	0.13% کم از کم-1,100 روپے
xxxvi	SBP)ILTF (سکیم کے تحت اسلامی طویل مدتی مالیاتی سہولت) - بینڈنگ چارجز	-/2,000 روپے فی کیس
xxxvii	فرمز کے ذریعہ تین طرفہ تجارتی ریڈیٹرانزیکشنز کی بینڈنگ اور پاکستان میں کمپنیاں بینک ٹو بینک LC/س یا پیشگی ادائیگیوں وغیرہ کے ذریعے	-/2,000 روپے اس کے علاوہ متعلقہ سروس چارجز
xxxviii	بینک کے کوئی بھی آؤٹ آف پاکٹ اخراجات جن کا تذکرہ SOCs میں نہیں ہے	اصل پر
xxxix	برآمدی ایل سی کی تینج	-/1,800 روپے فی کیس اس کے علاوہ سوئفٹ چارجز
xxxx	دوسرے بینکوں کی جانب سے سوئفٹ منیج کی جانچ یا تصدیق کیلئے	-/375 علاوہ سوئفٹ
xxxxi	درآمد کنندگان کی درخواست پر دوسرے بینک کے ذریعے فارورڈ ایکسیچج بینک کے حوالے سے NOC کا اجراء	-/1,000 روپے فی کیس
xxxxii	فریٹ سرٹیفیکیشن کا اجراء	-/1,200 فی کیس
xxxxiii	LC / معاہدے کے تحت یونٹس بلز کی پیوریٹی میں توسیع	-/2,000 روپے فی کیس (برائے درآمد برآمدات مل سٹیلٹ کے وقت ریٹائرمنٹ کیلئے کے علاوہ)
xxxxiv	وقت تک محدود برآمدی پیشگی ادائیگی کے معاملات پر کارروائی کیلئے سروس چارجز جہاں E-Form/EFE تصدیق شدہ/منظور شدہ ہو یا SBP کی طرف سے منظوری کے بعد پیشگی ادائیگی کی تاریخ سے ایک سال کی مباد ختم ہونے کے بعد FI بنائی گئی ہو۔	-/1,250 فی کیس
xxxxv	وصول کیلئے درآمدی مل - بقایا دستاویزات (غیر ادا شدہ/ ناقابل قبول) کیلئے بینڈنگ چارجز	فی دستاویز وصول کئے جائیں گے
	a - وصولی کی تاریخ سے 30 دن تک b - 30 دن سے اوپر 60 دن تک c - 60 دن سے اوپر	-/1,500 روپے -/2,000 روپے -/5,000 روپے
xxxxvi	نئے ٹریڈ کسٹمر کی آن بورڈنگ کیلئے فریق ثالث کے تصدیقی چارجز	اصل پر

C		ترسیلات زر (غیر ملکی کرنسی)
i	اخراج زر:	
	(a) غیر ملکی ڈیما نڈ ڈرافٹ (FDD) / غیر ملکی ٹیلیگرافک ٹرانسفر (FTT) / غیر ملکی کرنسی کا اخراج	FDD - 20/ ڈالر یا مساوی اس کے علاوہ سوئفٹ چارجز FTT - 37/ ڈالر یا مساوی اس کے علاوہ سوئفٹ چارجز
	(b) ایف ڈی ڈی کی تنسیخ کے چارجز	-12/ ڈالر یا مساوی علاوہ سوئفٹ چارجز اور غیر ملکی بینک چارجز بھی لاگو ہو سکتے ہیں (اصل کے مطابق)
	(c) FDD سٹاپ پیمنٹ چارجز	-10/ ڈالر یا مساوی علاوہ سوئفٹ چارجز اور غیر ملکی بینک چارجز بھی لاگو ہو سکتے ہیں (اصل کے مطابق)
	(d) ڈپلیکیٹ FDD کے اجراء کے چارجز	-15/ ڈالر یا مساوی علاوہ سوئفٹ چارجز
	(e) روپیہ اکاؤنٹ سے ترسیلات زر کیلئے سروس چارجز	0.10% یا کم از کم -1,000 روپے
	(f) FC A/c سے FCY نوٹ جمع کروانے کے 14 دنوں کے اندر ترسیلات زر / انکمیشمنٹ	0.50% - کم از کم 4 ڈالر (مساوی کرنسی)
	(g) یورو، پاؤنڈ اور یو ایس ڈالرز کی پیمنٹ کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کروانا	اندرون ملک برانچ پر 0.5% اور کراچی برانچ پر 0.25% - کم از کم -500 روپے
	(h) SBP ایف ای 2006 کے سرکل نمبر 6 کے مطابق فریٹ فارورڈرز کی درخواست پر فریٹ چارجز کی ترسیل	-3,000 روپے علاوہ FTT چارجز اور سوئفٹ چارجز
	(i) SBP کی منظوری کا حصول برائے - ترسیلات زر یا سویریٹی بینک کی تفویض - کوئی دیگر مقصد	-1,800 فی کیس
ii	آمد زر دیگر	اگر رقم ہمارے بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی جاتی ہے تو کوئی نہیں بصورت دیگر -5/ ڈالر یا پاکستانی کرنسی میں مساوی چارجز
D		وصولی (غیر ملکی کرنسی)
i	اخراج زر:	
	(a) چیکس / بینک ڈرافٹ / TCS وغیرہ	چیکس اور ڈرافٹس کیلئے -10/ ڈالر یا مساوی فی انسٹرمنٹ علاوہ کوریئر چارجز TCS کی صورت میں -10/ ڈالر یا مساوی فی ٹیلیکیشن علاوہ کوریئر چارجز؛ اور اگر رقم پاکستانی روپیہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جاتی ہے تو ہر -100 روپے پر 13 پیسے - کم از کم -500 روپے
	(b) بغیر ادائیگی واپس ہونے والے چیکس	واپس کرنے والے بینک کے اصل چارجز علاوہ -5/ ڈالر یا مساوی علاوہ سوئفٹ چارجز، اگر کوئی ہوں
ii	(c) لاجمنٹ پر NIFT کے ذریعے امریکی ڈالر کی کلیئرنگ	-6/ ڈالر فی چیک علاوہ کوریئر چارجز کراچی شہر کے علاوہ دیگر برانچز کیلئے
	(a) بیرون ملک یا مقامی بینکوں سے اندرون ملک ٹیلیکیشن	-10/ ڈالر فی انسٹرمنٹ علاوہ سوئفٹ چارجز
	(b) اندرون FCY چیک کی ناکافی ٹیلیٹس کی وجہ سے بغیر ادائیگی واپسی	-10/ ڈالر فی انسٹرمنٹ علاوہ کوریئر اور سوئفٹ چارجز، اگر کوئی ہوں خط و کتابت کے چارجز اضافی ہوں گے اگر کوئی ہوں
iii	(c) FCY اکاؤنٹس میں مستقل ہدایات مستقل ہدایات کی فیس	1 ڈالر فی غرامز ٹیلیکیشن یا مساوی
E		مختلف
i	خط و کتابت کے چارجز	اصل قیمت
ii	دوسرے بینکوں کی جانب سے سوئفٹ پیغام کی جانچ یا تصدیق کی تصدیق کیلئے	-350 روپے علاوہ سوئفٹ چارجز اور / یا ڈاک
iii	ڈپلیکیٹ مشورے، ضمیر، PRC، وغیرہ	-300 روپے فی آئٹم
iv	ڈاک / کوریئر / سوئفٹ / فیس چارجز (a) بیرون ملک ڈاک	-250 روپے
	(b) بیرون ملک کوریئر	-1,800 روپے (یا اصل، جو بھی زیادہ ہو)
	(c) سوئفٹ سوئفٹ - مختصر پیغامات سوئفٹ - FULL TEXT LCs وغیرہ	-750 روپے -1,500 روپے

		(d) بیرون ملک فیکس	-/250 روپے فی صفحہ
		(e) ایک سال سے زیادہ کی ترسیلات زر کی رقم کے سرٹیفکیٹ کا اجراء	-/500 روپے فی سرٹیفکیٹ
		(f) کسی بھی ٹرانزیکشن پر کوئی اضافی اخراجات جو اس SOC میں شامل نہیں	اصل قیمت
نٹس			
A	اسلامی طریقوں کے تحت مالیاتی حدود کی پروسیجرنگ کیلئے درج ذیل چارجز وصول کئے جاسکتے ہیں		
i	(a) پروجیکٹ معاہدہ نہیں	1% جہاں قابل اطلاق ہو کم از کم -/1,000 روپے یا کسٹمر کے ساتھ انتظامات کے مطابق	اصل قیمت
	(b) تمام فنڈنگ دستاویزات کے اسٹامپ پیپر/چسپاں ہونے والے اسٹیمپ کے چارجز (SBL کا عملہ/ فنڈنگ کیلئے سروس چارجز سے مستثنیٰ ہے، تاہم اسٹامپ پیپر/چسپاں ہونے والے ڈاک ٹکٹ کی قیمت اصل وصول کی جائے گی)	اسٹامپ پیپر/چسپاں ہونے والے ڈاک ٹکٹوں کی اصل قیمت پر 9.5% اضافی سروس چارجز	اصل قیمت
ii	قانونی چارجز	(a) ان باؤس قانونی مشورہ (قبل از رہن یا جامع) برائے کارپوریٹ اور کرمل طبقہ	-/22,000 روپے
	(b) اندرونی قانونی مشورہ (advice) (بعد از رہن)		-/10,000 روپے
	(c) اندرونی قانونی مشورہ (advice) (کسٹمر کی جانیداد)		-/20,000 روپے
	(d) بیرونی قانونی مشورہ (advice)	اصل قیمت	
	(e) معاہدے / رہن کے معاہدے اور مختار نامے وغیرہ کی ڈرافٹنگ		-/2,500 روپے
	(f) قانونی چارہ جوئی	اصل قیمت	
iii	دیگر فیکس DFIs کی جانب سے جاری سکیورٹیز پر کفالت	-/500 روپے	
iv	قانونی دستاویزی لاگت	اصل قیمت کے علاوہ کوئی بھی براہ راست اخراجات	
v	انفکاک (ریڈیشن) فیس پارٹی سے وصول کی جائیگی جب بینک آفیسرز کو رہن کے انفکاک کیلئے رجسٹر ارا کے پاس پیش ہونا ہوگا۔	-/3000 روپے مقررہ علاوہ وینڈر کی فیس/ چارجز اصل پر	
vi	eCIB رپورٹ چارجز	اصل قیمت	
vii	مسادی شرح کے حامل (pari-pasu) چارجز/ JPP چارجز یا چارج کردہ رقم / تفصیل میں تخفیف / تزییم کے لیے کسی این اوی کے اجراء کیلئے	-/10,000 روپے مقررہ فی این اوی	
viii	پرائیویٹ کریڈٹ ریورور رپورٹ چارجز	اصل قیمت	
ix	اعتمادی ساکھ (Credit Worthiness) کی رپورٹ ایرونی تجربہ کار کی BIR فیس	-/500 روپے بجے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے اصل چارجز اور قابل اطلاق ترسیل / مواصلاتی چارجز	
x	پروجیکٹ کی جانچ پڑتال / قیمت بندی کی فیس برائے بیرونی ذریعے سے جانچ پڑتال	اصل قیمت	
xi	چارجز فیس کی چھوٹ / سکیورٹی کا اجراء	-/1,500 روپے فی پراپرٹی / سکیورٹی	
xii	اُن پراپرٹی دستاویزات کو قبول میں / محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی تحویل کی فیس جن کے تحت تمام انٹرنیشنل منسوخ ہو گئی ہوں / کوئی رقم واجب الادا نہ ہو	-/5,000 روپے ماہانہ لمٹ کی منسوخی کی تاریخ / ایک پیوڈر کی تاریخ سے 3 ماہ کے بعد	
xiii	ڈیجیٹل ایکسٹرنل ویب کی فیکس چارجز	اصل قیمت	
xiv	آمدنی کے تخمینہ کے چارجز	اصل قیمت	
xv	نظر ثانی شدہ سہولت کا آفر لیٹر - صرف رہن کی فنڈنگ کیلئے	-/1,000 مقررہ	
xvi	نقد / چیک وصولی کے چارجز	-/500 روپے	
xvii	ضبط شدہ گاڑی / پراپرٹی کے بنیادی کے چارجز	اصل قیمت	
xviii	ضبط شدہ گاڑیوں کی پارکنگ کیلئے ویز باؤس چارجز	اصل قیمت	
xix	گاڑی کی فیکس کے چارجز (فیکس، ویبر باؤس، سروسے اور فیکس سے متعلق دیگر چارجز)	اصل قیمت	
xx	سکیورڈ ٹرانزیکشن ایکٹ 2016 کے تحت ایس ای سی پی میں چارجز کی رجسٹریشن (پبلک لمیٹڈ کمپنی اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے علاوہ) ایس ای سی پی میں چارجز رجسٹریشن - سکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری ایس ای سی پی کی سرچ رپورٹ - سکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری	اصل قیمت	

xxi	متفرق چارجز (یعنی دستاویزات کیلئے، سیکورٹی کی تحفیں قدر، تلاش، مارکیٹ چارج رجسٹریشن اور ان کی میینٹیننس)	اصل قیمت اسٹامپ پیپر/چسپاں ہونے والے ڈاک ٹکٹوں کی اصل قیمت پر اضافی 9.50% سروس چارجز
نوٹ:		
* مندرجہ بالا چارجز سرمایہ کاری پر منافع / ریٹرن کے علاوہ وصول کئے جائیں گے۔		
* ریش اور کمیشن کا رو باری حجم / قدر اور کسٹمرز کے ساتھ اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجاز اتھارٹی کی منظوری حاصل کرنے کے بعد ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہیں۔		
B	کارپوریٹ / کمرشل / ایس ایم ای فنانس: (نیا / تجدید / توسیع)	
i	عملدرآمد کی فیس برائے سہولیات ایس ایم ای 5 ملین روپے تک 5 ملین روپے سے اوپر 10 ملین روپے تک 10 ملین روپے سے اوپر 20 ملین روپے تک 20 ملین روپے سے اوپر 50 ملین روپے تک 50 ملین روپے سے اوپر 100 ملین روپے تک 100 ملین روپے سے زائد	-/5,000 روپے -/6,250 روپے -/12,000 روپے -/22,000 روپے -/33,000 روپے -/55,000 روپے
ii	کمرشل اور ریشل 10 ملین روپے تک 10 ملین روپے سے اوپر 50 ملین روپے تک 50 ملین روپے سے اوپر 100 ملین روپے تک 100 ملین روپے سے اوپر 150 ملین روپے تک 150 ملین روپے سے اوپر 300 ملین روپے تک 300 ملین روپے سے اوپر 400 ملین روپے تک 400 ملین روپے سے زائد	-/10,000 روپے -/25,000 روپے -/50,000 روپے -/75,000 روپے -/150,000 روپے -/200,000 روپے -/250,000 روپے
iii	کارپوریٹ 40 ملین روپے تک 40 ملین روپے سے اوپر 80 ملین روپے تک 80 ملین روپے سے اوپر 200 ملین روپے تک 200 ملین روپے سے اوپر 300 ملین روپے تک 300 ملین روپے سے اوپر 500 ملین روپے تک 500 ملین روپے سے اوپر 1.00 بلین روپے تک 1.00 بلین روپے سے اوپر 3.00 بلین روپے تک 3.00 بلین روپے سے اوپر 5.00 بلین روپے تک 5.00 بلین روپے سے اوپر 10.00 بلین روپے تک 10.00 بلین روپے سے زائد	-/20,000 روپے -/40,000 روپے -/100,000 روپے -/150,000 روپے -/250,000 روپے -/500,000 روپے -/1,000,000 روپے -/1,500,000 روپے -/2,000,000 روپے -/2,500,000 روپے
iv	چارج فیس کی چھوٹ / سکیورٹی کا اجراء	-/4,000 روپے مقررہ
v	تمام دیگر یکبارگی سہولیات پر عملدرآمد کی فیس BDP (Business Discretionary Power) کے شیڈول کے تحت	0.10% یا کم / آئٹم -/5,000 روپے
vi	ہر عبوری توسیع / نظر جانی سے متعلق عملدرآمد کی فیس	-/3,000 روپے مقررہ
vii	فنانس کے متعلق اتوا / چھوٹ کیلئے عملدرآمد کی فیس، اگر منظوری کے بعد لاگو ہو	-/2,500 روپے مقررہ
viii	اُن پراپرٹی دستاویزات کو قبول میں / محفوظ رکھنے کے لئے حفاظتی تحویل کی فیس جن کے تحت تمام انٹرنیشنل ہو گئی ہوں / کوئی رقم واجب الادا نہ ہو	-/5,000 روپے ماہانہ / لمٹ / ایک پیوڈ کی تاریخ تخفیف سے ۱۰۳ بعد
C	اسلامی طریقوں کے مطابق فنانسنگ کیلئے سکیورٹی کے طور پر ضمانت / رہن	
i	مندرجہ ذیل کے طور پر مختلف چارجز لگائے جاسکتے ہیں:	-/500 روپے فی ٹرانزیکشن
ii	رہن کردہ آؤٹ آف شیئر رجسٹریشن	اصل قیمت
iii	گودام کا کرایہ	اصل قیمت
iv	گودام کے رکھوالوں / چوکیداروں کی تنخواہیں	10 ملین روپے تک: -/1,500 روپے
v	اسٹاک کا معائنہ، اگر بینک اسٹاف کی جانب سے کیا گیا ہے تو نقل و حمل کے اخراجات	10 ملین روپے سے زیادہ پر: -/3,500 روپے یا اصل - جو بھی زیادہ ہو (دونوں صورتوں میں)
vi	اسٹاک کا معائنہ، اگر بینک کے مقرر کردہ انجینئرز کی جانب سے کیا گیا	10 ملین روپے تک کی سہولت کیلئے: -/1,500 روپے 10 ملین روپے سے زیادہ کیلئے: -/3,000 روپے یا بار برداری چارجز
vii	اسکرپ کے لئے تجارتی جہازوں کا معائنہ / تجارتی جہازوں کے اسکرپ کے اسٹاک کا معائنہ	اصل قیمت
viii	اگر گودام کا رکھوالا مقرر نہیں ہے تو ڈیلیوری چارجز	اخراجات اصل قیمت پر وصول کئے جائیں گے بشمول نقل و حمل کے اخراجات
ix	دیگر اتفاقی اخراجات، مختلف انشورنس پیمائش، قانونی چارجز، وغیرہ	اصل قیمت
x	درآمد شدہ اشیاء کو چھڑوانے / اتارنے کیلئے کلیرنگ اور فارورڈنگ ایجنٹ کی فیس	-/625 روپے فی ڈیلیوری آرڈر
	رہن کردہ اسٹاک کے اجراء کیلئے جاری کردہ ڈیلیوری آرڈر	

نوٹ: متفرق چار جزیجیسے کہ گودام کا کرایہ، گودام کے عملی تخواہیں، معائنہ چار جزی وغیرہ کی وصولی کے وقت، قرض خواہ سے وصول کی جانے والی رقم گودام کے مجموعی کرائے، گودام کے عملی تخواہ وغیرہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ دیگر الفاظ میں، چار جزی اصل کے مطابق وصول کئے جائیں گے اور یہ بینک کے منافع کا ذریعہ نہیں ہوں گے۔		
اس شیڈول میں بیان کردہ سروس چار جزی مختلف لین دین پر بینک کی طرف سے پیش کی جانے والی مختلف قسم کی موثر/اعضی خدمات کیلئے ہیں۔ ہمارے شریعہ بورڈ کی رہنمائی کے مطابق محض کسی مالی وعدے یا ضمانت کے اجراء پر فیس/کمیشن وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم، اگر بینک کی طرف سے اضافی متعلقہ خدمات بھی پیش کی جاتی ہیں/انجام دی جاتی ہیں تو اسے فیس لینے کی اجازت ہے۔		
شریعیہ بورڈ نے بینک کو دو ستاویزات، کریڈٹ کے اندازے، خط و کتابت، اکاؤنٹس کی دیکھ بھال، نگرانی وغیرہ جیسی تمام سہولیات سے متعلق خدمات کیلئے فیس وصول کرنے کی اجازت دی ہے۔		
D زرعی فنانس:		
a	پروسیسنگ فیس	فنانس کی رقم کا 0.75% یا کم سے کم۔ 2,500/- روپے نئی تقسیم/تجدید/توسیع کے وقت جو بھی زیادہ ہو۔
b	تاخیر سے ادائیگی پر خیرات	خیراتی پالیسی کے مطابق یا خیراتی شقوں کے مطابق
E صارف فنانس:		
i	سویری کاراجارہ فنانس	اصل قیمت
	(a) دستاویزات، استعمال شدہ/ری کنڈیشنز گاڑی کی قیمت کا اندازہ، گاڑی کی رجسٹریشن اور جامع ٹیکس پالیسی پر بیمہ کے اخراجات	
	(b) پروسیسنگ فیس	12,000/- مقررہ نئی گاڑی 13,000/- مقررہ اپورٹڈ/ری کنڈیشنز اور استعمال شدہ گاڑی
	(c) گاڑی کے دوبارہ قبضے کے چارجز	بینک کی جانب سے 100,000/- روپے تک کے اصل اخراجات، جمع گاڑی کے دوبارہ قبضے کے مطابق بینک چارجز 10,000/- روپے فی ٹیکس
	(d) NOC کا دوبارہ اجراء	1,500/- روپے ماہانہ
	(e) ہر چیز آرڈر کا دوبارہ اجراء/تجدید	1,500/- روپے ماہانہ
	(f) قرض از وقت ادائیگی کے چارجز	بقایا رقم کا 50%
ii	سویری مستقیم گھر فنانس	
	(a) i) پروسیسنگ فیس 5 ملین روپے تک 5 ملین روپے سے اوپر 10 ملین روپے تک 10 ملین روپے سے زائد	12,500/- روپے 18,000/- روپے 31,000/- روپے
	(ii) پروسیسنگ فیس برائے شریک درخواست گزار	(ii) ہر اضافی شریک درخواست گزار کیلئے 6,200/- روپے مقررہ وصول کئے جائیں گے۔
	(b) رہن کی حفاظتی ٹیکسٹائل/انشورنس پر بیمہ	اصل قیمت
	(c) تاخیر سے ادائیگی پر خیرات	خیراتی پالیسی کے مطابق یا خیراتی شقوں کے مطابق
	(d) انفکاک (ریڈیمشن) فیس پارٹی سے وصول کی جائے گی جب بینک آفیسر زکوری بن کے انفکاک کیلئے رجسٹرار کے پاس پیش ہوتا ہوگا۔	3000/- روپے مقررہ علاوہ وینڈر کی فیس/چار جزی اصل پر
	(e) اُن پر پارٹی دستاویزات کو تحویل میں محفوظ رکھنے کے لئے حفاظتی تحویل کی فیس جن کے تحت کوئی رقم واجب الادا نہ ہو	1,875 روپے ماہانہ
iii	سویری میر اپا پاکستان میرا گھر (MPMG)	
	(a) پروسیسنگ فیس	5,000/- روپے مقررہ
	(b) اندرونی قانونی مشورہ	درجہ اول - 4,000/- روپے درجہ دوم - 5,000/- روپے درجہ سوم - 6,000/- روپے
	(c) بیرونی قانونی مشورہ	اصل قیمت
	(d) مورگج پروٹیکشن ٹیکسٹائل/انشورنس پر بیمہ	اصل قیمت
	(e) تاخیر سے ادائیگی پر خیرات	خیراتی پالیسی کے مطابق یا خیراتی شقوں کے مطابق
	(f) انفکاک (ریڈیمشن) فیس پارٹی سے وصول کی جائے گی جب بینک آفیسر زکوری بن کے انفکاک کیلئے رجسٹرار کے پاس پیش ہوتا ہوگا۔	1,000/- روپے نئی واقعہ
	(g) ایڈجسٹ سہولت کے عوض حفاظتی دستاویزات رکھنے کیلئے سیف کھلی چار جزی	625/- روپے ماہانہ
F کاروں/گاڑیوں کی کمرشل فنانسنگ		
i	دستاویزات، گاڑی کی رجسٹریشن اور جامع ٹیکس پالیسی پر بیمہ کے چارجز	اصل قیمت
ii	پروسیسنگ فیس	12,500/- روپے نئی گاڑی
iii	تاخیر سے ادائیگی پر خیرات	خیراتی پالیسی کے مطابق یا خیراتی شقوں کے مطابق
iv	ایکسٹرنل فائل/ٹیکس دستاویزات کو تحویل میں حفاظت میں رکھنے کی فیس جس کے تحت گاڑی کی خریداری کیلئے فنانس کو ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے	1,875/- روپے ماہانہ
v	جواب قابل اطلاق ہو، بینک چارجز بنائے کیلئے NOC کا دوبارہ اجراء	1,250/- روپے
vi	گاڑی کے دوبارہ قبضے کے چارجز	بینک کی جانب سے 100,000/- روپے تک کے اصل اخراجات، جمع گاڑی کے دوبارہ قبضے کے مطابق بینک چارجز 10,000/- روپے فی ٹیکس
vii	دوبارہ قبضے میں لگی گاڑی کی تشخیص قدر کے چارجز	اصل قیمت

G		ضمانتیں	
i	بلاؤف لیڈنگ / ایئروے بلز کی توثیق کے عوض بحری ترسیلی کمپنیوں / ایئر لائنز کو جاری کردہ ضمانتیں	- / 2,300 روپے مقررہ فی ضمانت / توثیق	
	بینک گارنٹیوں کی جانچ - ان ہاؤس	- / 1,000 روپے (فی ضمانت)	
ii	کلیئر آف کسٹم کو ایکسپورٹ ڈیوٹی کی مد میں ادا کیگی کیلئے جاری کردہ ضمانتیں جو کہ 6 ماہ تک کیلئے مستند ہوں گی	رقم	رقم تک
		رقم	رقم
iii		رقم	رقم
		رقم	رقم
iv	گیس نکشن کیلئے اور SSGC/SNGPL کو جاری شدہ ضمانتیں	رقم	رقم
		رقم	رقم

[illegible]

رقم ے	رقم تک	فی سرمایہ چار چار یا اس کا حصہ
رقم	500,000	1,500
32,000,001	34,000,000	41,250
34,000,001	36,000,000	43,750
36,000,001	38,000,000	46,250
38,000,001	40,000,000	48,750
40,000,001	42,000,000	51,250
42,000,001	44,000,000	53,750
44,000,001	46,000,000	56,250
46,000,001	48,000,000	58,750
48,000,001	50,000,000	61,250
50,000,001	52,000,000	63,750
52,000,001	54,000,000	66,250
54,000,001	56,000,000	68,750
56,000,001	58,000,000	71,250
58,000,001	60,000,000	73,750
60,000,001	62,000,000	76,250
62,000,001	64,000,000	78,750
64,000,001	66,000,000	81,250
66,000,001	68,000,000	83,750
68,000,001	70,000,000	86,250
70,000,001	72,000,000	88,750
72,000,001	74,000,000	91,250
74,000,001	76,000,000	93,750
76,000,001	78,000,000	96,250
78,000,001	80,000,000	98,750
80,000,001	82,000,000	101,250
82,000,001	84,000,000	103,750
84,000,001	86,000,000	106,250
86,000,001	88,000,000	108,750
88,000,001	90,000,000	111,250
90,000,001	92,000,000	113,750
92,000,001	94,000,000	116,250
94,000,001	96,000,000	118,750
96,000,001	98,000,000	121,250
98,000,001	100,000,000	123,750

*100 ملین روپے سے زیادہ کی ملحق رقم پر ہر 1 ملین روپے کیلئے -/1,250 روپے کے اضافی سروس چارجز (فی سرمایہ یا اس کا حصہ) یا انتظامات کے مطابق لاگو ہوں گے۔

اس شیڈول میں مذکورہ سروس چارجز مختلف ٹرانزیکشنز کیلئے بینک کی طرف سے پیش کی جانے والی مختلف قسم کی موثر/معاوضہ خدمات پر لاگو ہیں۔ ہمارے شریعہ بورڈ کی رہنمائی کے مطابق شخص کسی مالی وعدے یا ضمانت کے اجراء پر نہیں/کمیشن وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم، اگر بینک اضافی متعلقہ خدمات بھی فراہم کرتا/انجام دیتا ہے تو نہیں وصول کی جاسکتی ہے۔ شریعہ بورڈ نے بینک کو اجازت دی ہے کہ وہ گریڈ دستاویزات، تشخیص، خط و کتابت، اکاؤنٹس کی دیکھ بھال بھارتی وغیرہ کیلئے تمام سہولیات سے متعلق خدمات کیلئے نہیں وصول کرے۔

رقم ے	رقم تک	فی سرمایہ چار چار یا اس کا حصہ
رقم	80,000	125
280,001	300,000	363
300,001	320,000	388
320,001	340,000	413
340,001	360,000	438
360,001	380,000	463
380,001	400,000	488
400,001	420,000	513
420,001	440,000	538
440,001	460,000	563
460,001	480,000	588
480,001	500,000	613
500,001	520,000	638
520,001	540,000	663
540,001	560,000	688
560,001	580,000	713
580,001	600,000	738
600,001	620,000	763
620,001	640,000	788
640,001	660,000	813
660,001	680,000	838
680,001	700,000	863
700,001	720,000	888
720,001	740,000	913
740,001	760,000	938
760,001	780,000	963
780,001	800,000	988
800,001	820,000	1,013

b غیر رہائشی پاکستانی کی جانب سے نمائندہ/غیر ملکی بینک کی کاروبارگاہی کیلئے پاکستان میں جاری کی گئی

رقم	رقم تک	فی سرمایہ چارجز یا اس کا حصہ
رقم	80,000	125
820,001	840,000	1,038
840,001	860,000	1,063
860,001	880,000	1,088
880,001	900,000	1,113
900,001	920,000	1,138
920,001	940,000	1,163
940,001	960,000	1,188
960,001	980,000	1,213
980,001	1,000,000	1,238
* 1 ملین ڈالر سے زیادہ کی اضافی رقم پر ہر 1 ملین روپے کیلئے -/1,250 روپے کے اضافی سروس چارجز (فی سرمایہ یا اس کا حصہ) یا انتظامات کے مطابق لاگو ہوں گے۔ اس شیڈول میں مذکورہ سروس چارج مختلف ٹرانزیکشنز کیلئے بینک کی طرف سے پیش کی جانے والی مختلف قسم کی نوٹس/ معاوضہ خدمات پر لاگو ہیں۔ ہمارے شریعہ یورڈ کی رہنمائی کے مطابق شخص کی مالی وعدے یا ضمانت کے اجراء پر فیس/ کمیشن وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم، اگر بینک اضافی متعلقہ خدمات بھی فراہم کرتا/ انجام دیتا ہے تو فیس وصول کی جاسکتی ہے۔ شریعہ یورڈ نے بینک کو اجازت دی ہے کہ وہ کریڈٹ دستاویزات، شخص، خط و کتابت، اکاؤنٹس کی دیکھ بھال، ہجرائی وغیرہ کیلئے تمام سہولیات سے متعلق خدمات کیلئے فیس وصول کرے۔		
رقم	رقم تک	فی سرمایہ چارجز یا اس کا حصہ
رقم	500,000	1,500
500,001	2,000,000	1,875
2,000,001	4,000,000	4,500
4,000,001	6,000,000	7,500
6,000,001	8,000,000	10,500
8,000,001	10,000,000	13,500
10,000,001	12,000,000	16,500
12,000,001	14,000,000	19,500
14,000,001	16,000,000	22,500
16,000,001	18,000,000	25,500
18,000,001	20,000,000	28,500
20,000,001	22,000,000	31,500
22,000,001	24,000,000	34,500
24,000,001	26,000,000	37,500
26,000,001	28,000,000	40,500
28,000,001	30,000,000	43,500
30,000,001	32,000,000	46,500
32,000,001	34,000,000	49,500
34,000,001	36,000,000	52,500
36,000,001	38,000,000	55,500
38,000,001	40,000,000	58,500
40,000,001	42,000,000	61,500
42,000,001	44,000,000	64,500
44,000,001	46,000,000	67,500
46,000,001	48,000,000	70,500
48,000,001	50,000,000	73,500
50,000,001	52,000,000	76,500
52,000,001	54,000,000	79,500
54,000,001	56,000,000	82,500
56,000,001	58,000,000	85,500
58,000,001	60,000,000	88,500
60,000,001	62,000,000	91,500
62,000,001	64,000,000	94,500
64,000,001	66,000,000	97,500
66,000,001	68,000,000	100,500
68,000,001	70,000,000	103,500
70,000,001	72,000,000	106,500
72,000,001	74,000,000	109,500
74,000,001	76,000,000	112,500
76,000,001	78,000,000	115,500
78,000,001	80,000,000	118,500
80,000,001	82,000,000	121,500
82,000,001	84,000,000	124,500
84,000,001	86,000,000	127,500
86,000,001	88,000,000	130,500
88,000,001	90,000,000	133,500
90,000,001	92,000,000	136,500
92,000,001	94,000,000	139,500
94,000,001	96,000,000	142,500
96,000,001	98,000,000	145,500
98,000,001	100,000,000	148,500
* 100 ملین روپے سے زیادہ کی اضافی رقم پر ہر 1 ملین ڈالر کیلئے -/1,250 روپے کے اضافی سروس چارجز (فی سرمایہ یا اس کا حصہ) یا انتظامات کے مطابق لاگو ہوں گے۔		

پاکستان سے باہر پمپشریز کے حق میں ضمانتیں۔
 (SBP) ریگولیشن کے مطابق جاری کی جائیں گی جیسا ایف ای گائیڈ لائنز
 اور پریڈیکشن ریگولیشن میں فراہم کیا گیا ہو۔ اگر فراہم نہیں کیا گیا تو کیس کے
 مطابق اسٹیٹ بینک کی پیشگی منظوری درکار ہوگی)
 ا- کمیشن

vi

		اس شیڈول میں مذکورہ سروس چار جزی مختلف ٹرانزیکشنز کیلئے بینک کی طرف سے پیش کی جانے والی مختلف قسم کی نوٹز/ معاوضہ خدمات براہ گو ہیں۔ ہمارے شریعہ بورڈ کی رہنمائی کے مطابق محض کسی مالی وعدے یا ضمانت کے اجراء پر فیس/ کمیشن وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم، اگر بینک اضافی متعلقہ خدمات بھی فراہم کرتا/ انجام دیتا ہے تو فیس وصول کی جاسکتی ہے۔ شریعہ بورڈ نے بینک کو اجازت دی ہے کہ وہ کریڈٹ دستاویزات، تحفے، خط و کتابت، اکاؤنٹس کی دیکھ بھال، نگرانی وغیرہ کیلئے تمام ہولیات سے متعلق خدمات کیلئے فیس وصول کرے۔
	(b) دیگر چارجز	نمائندہ بینک کی گارنٹی کا کمیشن اور دیگر چارجز جن کا اصل کی بنیاد پر دعویٰ کیا گیا ہو۔
vii	تراہیم (a) متن میں کوئی بھی ترمیم بشمول رقم اور مدت میں تبدیلی	1,200/- روپے پی ترمیم کمیشن کا فرق تو سستی مدت کیلئے اضافی اور رقم وصول کی جائے گی (اگر کوئی ہو)
	(b) نمائندہ/ فارن بینک کی جانب سے جوابی ضمانت کے عوض پاکستان میں بینشٹری کوائل میں ترمیم جاری کی گئی	100 امریکی ڈالر پی ترمیمی چارجز مع دیگر قابل اطلاق چارجز اضافی اضافی مدت اور رقم کیلئے کمیشن کے فرق کے علاوہ (اگر کوئی ہو)
	(c) سوئفٹ چارجز	SOC کے مطابق مکمل سوئفٹ، اگر قابل اطلاق ہو۔
viii	کلیم پیڈ لنک کے چارجز	
	(a) رہائشی فرد کی طرف سے پاکستان میں بینشٹری کو LG کا اجراء	3,000/- روپے علاوہ دیگر قابل اطلاق چارجز
	(b) ضمانت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے منسوخی کے چارجز	منسوخی پر پی کیس 750 روپے وصول کئے جائیں گے، نیز گارنٹی جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر اختتامی تاریخ تک (اگر پہلے وصول نہیں کیا گیا ہو) گارنٹی کمیشن بھی وصول کیا جائے گا۔
ix	کنسوریم ضمانتیں	کیس کی نوعیت کی بنیاد پر معاہدے کے مطابق
x	کرنٹ اکاؤنٹ سے 100% کمیشن مارجن/ لین کے عوض پاکستان میں جاری ہونے والی ضمانتیں (اس میں اسپید پی ایم کے تحت جاری ضمانتیں یا 100% کمیشن مارجن کے عوض اوپن اینڈ ضمانتیں شامل نہیں ہیں)	کوئی نہیں
xi	میعاد ختم ہونے کے بعد ضمانت کی دوبارہ توثیق/ تجدید کا کمیشن	مذکورہ بالا iv, iii, ii, i اور v- نکات کے مطابق کمیشن
xii	جواز کے تصدیقی چارجز	1,200/- روپے پی تصدیق
xiii	LG کی وصولی کے چارجز	1,000/- روپے پی انسٹرومنٹ LG
xiv	بینک گارنٹی پر نظر ثانی۔ این باؤس	1,800/- روپے پی نظر ثانی
xv	LG کی نقل/ دوبارہ اجراء کے چارجز	1,800/- روپے پی اجراء (علاوہ ہاڈ پیچہ چارجز)
xvi	دیگر بینکوں کو گارنٹی کی تفویض	1,500/- روپے علاوہ سوئفٹ چارجز

نوٹ:

- a بینک کی جانب سے جاری کی جانے والی تمام ضمانتوں پر مخصوص رقم اور میعاد کے خاتمے کی تاریخ اور دعویٰ جمع کروانے کی تاریخ لازماً درج ہونی چاہیے۔ کمیشن کی وصولی کا اطلاق دعوے کی مدت پر بھی ہوگا۔
- b غیر ملکی نمائندہ/ بینک کی کاؤنٹر ضمانت کے تحت، مقامی طور پر ضمانت کے اجراء کیلئے حاصل ہونے والے یا بھی بزنس کی بنیاد پر مختلف ریش کا تعین ہوگا۔
- c ضمانت پر کمیشن، اجراء کے وقت پیشگی طور پر وصول کیا جائے گا۔
- d اگر ضمانت کو ایک سال سے زائد مدت کیلئے جاری کیا جائے، تو داخلی منظور یوں کے تحت کمیشن کی مدت کو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جس میں پہلے سال کیلئے اسے اجراء کے وقت پیشگی طور پر وصول کیا جائے گا اور اس کے بعد کے دورانیے کیلئے گزشتہ سال کے اختتام پر مکمل سال/ حصوں میں، جو بھی صورت ہو، وصول کیا جائے گا۔
- e بندش ضمانتوں کے شرائط مراسلے کے اجراء کی تاریخ سے اختتام کی تاریخ تک کمیشن وصول کیا جائے گا کیلئے ضمانتوں کی صورت میں کمیشن اس وقت تک چارج کیا جائے گا جب تک بینک ضمانت کے تحت اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جاتا، جو بھی بعد میں واقع ہو اگرچہ انسٹرومنٹ میں تاریخ اختتام موجود ہو۔
- f گارنٹی کمیشن ختم شدہ گارنٹیوں کیلئے اس وقت تک وصول کیا جاتا رہے گا جب تک کہ اصل انسٹرومنٹ واپس نہ کر دیا جائے/ بینک بینشٹری کی جانب سے ذمہ داری سے بری نہ ہو جائے۔
- g جہاں ضمانتیں پاکستان سے باہر بینشٹریز کے حق میں جاری کی جائیں، ایسی درخواستوں پر مروجہ FE اور پرنٹیشنل ریگولیشنز کی قیام کی جائیگی۔ جہاں ضروری ہو، اسٹیٹ بینک سے پیشگی منظوری حاصل کی جائے گی
- اس شیڈول میں بیان کردہ سروس چار جزی مختلف لین دین پر بینک کی طرف سے پیش کی جانے والی مختلف قسم کی نوٹز/ اضافی خدمات کیلئے ہیں۔ ہمارے شریعہ بورڈ کی رہنمائی کے مطابق محض کسی مالی وعدے یا ضمانت کے اجراء پر فیس/ کمیشن وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم، اگر بینک کی طرف سے اضافی متعلقہ خدمات بھی پیش کی جاتی ہیں/ انجام دی جاتی ہیں تو اسے فیس لینے کی اجازت ہے۔
- شریعہ بورڈ نے بینک کو دستاویزات، کریڈٹ کے اندازے، خط و کتابت، اکاؤنٹس کی دیکھ بھال، نگرانی وغیرہ جیسی تمام ہولیات سے متعلق خدمات کیلئے فیس وصول کرنے کی اجازت دی ہے۔

مقامی بینکنگ

A ملکی تجارت			
i	ملکی لیزز آف کریڈٹ (a) کھولنے پر سروس چارجز		
رقم	رقم تک	ملکی سرمایہ یا اس کا حصہ	اس کے بعد کی سرمایہ یا اس کا حصہ
رقم	500,000	2,000	2,000
500,001	800,000	3,250	2,275
800,001	1,000,000	4,500	3,150
1,000,001	1,500,000	6,250	4,375
1,500,001	2,000,000	8,750	6,125
2,000,001	2,500,000	11,250	7,875
2,500,001	3,000,000	13,750	9,625
3,000,001	3,500,000	16,250	11,375
3,500,001	4,000,000	18,750	13,125
4,000,001	4,500,000	21,250	14,875
4,500,001	5,000,000	23,750	16,625

رقم	رقم	میلی سرمایہ یا اس کا حصہ	اس کے بعد کی سرمایہ یا اس کا حصہ
رقم	500,000	2,000	2,000
5,000,000	18,375	26,250	18,375
6,000,000	20,125	28,750	20,125
6,500,000	21,875	31,250	21,875
7,000,000	23,625	33,750	23,625
7,500,000	25,375	36,250	25,375
8,000,000	27,125	38,750	27,125
8,500,000	28,875	41,250	28,875
9,000,000	30,625	43,750	30,625
9,500,000	32,375	46,250	32,375
10,000,000	34,125	48,750	34,125
12,500,000	39,375	56,250	39,375
15,000,000	48,125	68,750	48,125
17,500,000	56,875	81,250	56,875
20,000,000	65,625	93,750	65,625
22,500,000	74,375	106,250	74,375
25,000,000	83,125	118,750	83,125
27,500,000	91,875	131,250	91,875
30,000,000	100,625	143,750	100,625
32,500,000	109,375	156,250	109,375
35,000,000	118,125	168,750	118,125
37,500,000	126,875	181,250	126,875
40,000,000	135,625	193,750	135,625
42,500,000	144,375	206,250	144,375
45,000,000	153,125	218,750	153,125
47,500,000	161,875	231,250	161,875
50,000,000	170,625	243,750	170,625
52,500,000	179,375	256,250	179,375
55,000,000	188,125	268,750	188,125

* 100 ملین روپے کی رقم سے زیادہ کی تمام L/C پر 1 ملین روپے کیلئے -/5,000 روپے (مبلی سرمایہ) -/3,500 روپے (اس کے بعد کی سرمایہ) کے اضافی سروس چارجز لاگو ہوں گے
 * اس شیڈول میں مذکور سروس چارج مختلف ٹرانزیکشنز کیلئے بینک کی طرف سے پیش کی جانے والی مختلف قسم کی موثر/معوضہ خدمات پر لاگو ہیں۔ ہمارے شریعہ بورڈ کی رہنمائی کے مطابق محض کسی مالی وعدے یا ضمانت کے اجراء پر فیس/کمیشن وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم، اگر بینک اضافی متعلقہ خدمات بھی فراہم کرتا/انجام دیتا ہے تو فیس وصول کی جاسکتی ہے۔ شریعہ بورڈ نے بینک کو اجازت دی ہے کہ وہ کریڈٹ دستاویزات، تفتیش، خط و کتابت، اکاؤنٹس کی دیکھ بھال، نگرانی وغیرہ کیلئے تمام سہولیات سے متعلق خدمات کیلئے فیس وصول کرے۔

(b) تبدیلیاں	(i) -/1,250 روپے فی ترمیم (ii) ترمیم پر عمل درآمد کے چارجز -/1,800 روپے علاوہ آنکلوز اپننگ کے تحت کمیشن، اگر ترمیم میں رقم کا اضافہ یا LC کی توثیق کے بعد لیا LC کی توثیق میں توسیع شامل ہو
(c) دیگر	اگر کوئی LC دوسرے بینک کے ذریعے کھولی گئی ہے، تو لیٹر آف کریڈٹ کھولنے والے بینک کے اصل چارجز اوپر بیان کردہ ہمارے اپنے چارجز کے علاوہ وصول کئے جائیں گے۔ اس بات کا اطلاق دیگر بینکوں کے ذریعے کھولی گئیں ایل بیز میں ترمیم پر بھی ہو
(d) ہدایت (Advising)	-/1,800 روپے (مقررہ) کسٹمرز کیلئے -/3,000 روپے (مقررہ) علاوہ کسٹمرز
(e) ترمیمی ہدایت	-/1,500 روپے (مقررہ) کسٹمرز کیلئے -/1,800 روپے (مقررہ) علاوہ کسٹمرز
(f) کمیشن کی فیس	-/1,800 روپے فی دستاویز
(g) LC ڈرافٹ پر عمل درآمد کے چارجز	-/2,350 روپے فی LC علاوہ (مندرجہ بالا a-i)
(h) داہنگی کے بغیر واپس ہونے والے مقامی بلز	-/1,200 روپے
(i) مدت ختم ہونے والی LCs کی توثیق یا نئے بینفشری کو منتقلی	وہی کمیشن جو LCs کو کھولنے پر لاگو ہے
(j) LC / معاہدے کے تحت یورنس بلوں کی میپورٹ میں توسیع	-/1,500 روپے فی کس (برائے درآمدات اور برآمدات)
(k) یورنس LC کی میعاد ختم ہونے کا کمیشن میپورٹ/ای/ادائیگی کی قبولیت کے وقت وصول کیا جائے گا۔	0.25% یا روپے -/2,500 جو بھی زیادہ ہو، ان کیسوں کی ریٹائرمنٹ کے وقت وصول کیا جائے گا جو LC کی توثیق LC کے نوٹس کی تعداد LC کی میعاد تاریخ سے ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک سے باہر ہیں۔ تاہم، اگر بلوں کی میپورٹ/ای/ادائیگی کی مدت اس مدت میں آتی ہے جس کیلئے LC کھولنے کا کمیشن پہلے ہی وصول کیا جا چکا ہے تو کوئی کمیشن نہیں لیا جائے گا۔

نوٹ:

- 1- درج بالا (a) اور (b) میں سروس چارجز پر سالانہ حجم/قدروں اور کسٹمرز کے ساتھ معاہدوں کی بنیاد پر مجاز اتھارٹی سے منظوری کے بعد تصفیے کا عمل لاگو ہوگا۔
 - 2- اگر سروس چارجز بینفشری کے اکاؤنٹ کیلئے ہیں، تو LC کے اجراء کے وقت کھولنے والوں سے پیشگی وصول کئے جائیں گے۔ رقم منع ایل بی (LC) کے اجراء کے سروس چارجز وصول ہونے پر اسے ایل بی (LC) کھولنے والے کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا جائے گا۔
- اس شیڈول میں بیان کردہ سروس چارجز مختلف بین دین پر بینک کی طرف سے پیش کی جانے والی مختلف قسم کی موثر/معوضہ خدمات کیلئے ہیں۔ ہمارے شریعہ بورڈ کی رہنمائی کے مطابق محض کسی مالی وعدے یا ضمانت کے اجراء پر فیس/کمیشن وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم، اگر بینک کی طرف سے اضافی متعلقہ خدمات بھی پیش کی جاتی ہیں/انجام دی جاتی ہیں تو اسے فیس لینے کی اجازت ہے۔
- شریعہ بورڈ نے بینک کو دستاویزات، کریڈٹ کے اندازے، خط و کتابت، اکاؤنٹس کی دیکھ بھال، نگرانی وغیرہ جیسی تمام سہولیات سے متعلق خدمات کیلئے فیس وصول کرنے کی اجازت دی ہے۔

ii	چیک کوکیشن کروانے کا اختیار	جاری کرنے والی برانچ کا کوئی کمیشن نہیں ہوگا لیکن چارجز بمطابق وصول کئے جائیں گے
B	بلز	
i	وصولیاں (a) دستاویزی (i) ہماری اپنی برانچوں کے ذریعے (ii) دیگر بینکوں کی برانچوں کے ذریعے جہاں پر معاہدوں کے تحت سروں چارجز تقسیم کئے جاتے ہیں۔ یہ چارجز اس صورت میں بھی لاگو ہوں گے کہ وصولی کو دوسرے بینک کی جاری کئے جائیوالی (drawee) برانچ میں بھیجا جائے۔ (b) کلین (بشمول چیکس): (i) ہماری اپنی برانچوں کے ذریعے (ii) دیگر بینکوں کی برانچوں کے ذریعے	0.40% یا کم از کم -/800 روپے علاوہ ڈاک / کوریئر چارجز 0.50% یا کم از کم -/450 روپے علاوہ ڈاک / کوریئر چارجز 0.30% یا کم از کم -/75 روپے اور زیادہ سے زیادہ -/5,000 روپے علاوہ ڈاک / کوریئر چارجز 0.35% یا کم از کم -/100 روپے اور زیادہ سے زیادہ روپے -/5,000 علاوہ ڈاک / کوریئر چارجز اور ادائیگی کے بینک کے چارجز اصل پر -/175 روپے فی بل / دستاویز مع ڈاک / کوریئر چارجز دستاویزات کے بغیر واپس ہونے والی دستاویزات اور کلین وصولیوں پر واپس کے چارجز دستاویزات کے بلز جو کلیمبل (LCs) کے عوض ہوں گے: اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ (i) سائٹ بلز (Sight Bills) کلیمیشن چارجز -/500 روپے مقررہ فی بل
ii		

نوٹ: مندرجہ بالا نوٹس کے مطابق تمام دیگر چارجز جہاں بھی لاگو ہوں، اضافی ہوں گے۔
اس شیڈول میں بیان کردہ سروں چارجز مختلف لین دین پر بینک کی طرف سے پیش کی جانے والی مختلف قسم کی موثر/عوضی خدمات کیلئے ہیں۔ ہمارے شریعہ بورڈ کی رہنمائی کے مطابق شخص کسی مالی وعدے یا ضمانت کے اجراء پر فیس/کمیشن وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم، اگر بینک کی طرف سے اضافی متعلقہ خدمات بھی پیش کی جاتی ہیں/انجام دی جاتی ہیں تو اسے فیس لینے کی اجازت ہے۔
شرعیہ بورڈ نے بینک دستاویزات، کریڈٹ کے اندازے، خط و کتابت، اکاؤنٹس کی دیکھ بھال، نگرانی وغیرہ جیسی تمام سہولیات سے متعلق خدمات کیلئے فیس وصول کرنے کی اجازت دی ہے۔

C	ترسیلات زر (مقامی کرنسی)	
i	بینکرز چیک (a) اجراء (b) تعلیمی اداروں، HEC، بورڈ وغیرہ کے نام پر فیس / واجبات کی ادائیگی کیلئے بینکرز چیک کا اجراء (c) منسوخی (d) ڈیپلیٹ کا اجراء (e) بینکرز چیک کا اجراء برائے واک ان کسٹمرز	-/500 روپے فی بینکرز چیک فیس / واجبات کا 0.50% یا فی دستاویز -/25 روپے جو بھی کم ہو -/600 روپے -/600 روپے -/750 روپے
ii	سکیورٹی ڈپازٹ رسید (a) اکاؤنٹ ہولڈر کو اجراء (b) واک ان کسٹمر کو اجراء (c) منسوخی (d) ڈیپلیٹ کا اجراء	مفت واک ان کسٹمر کو جاری نہیں کی جائے گی -/500 روپے -/350 روپے
iii	کلیمیشن اکاؤنٹس کسٹمر کی خصوصی درخواست پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان کے چیک کا اجراء	-/500 روپے (مقررہ)
iv	پریزم سسٹم (RTGS) کے ذریعے فریق ثالث کے فنڈ کی منتقلی کا حتمی تصدیق دن ٹرانزیکشن کا وقت چارجز	صبح 09:00 سے دوپہر 01:30 بجے تک دوپہر 01:30 سے سہ پہر 03:00 بجے تک سہ پہر 03:00 سے شام 04:00 بجے تک کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں صبح 09:00 سے شام 04:00 بجے تک کوئی نہیں

نوٹ:

- ڈیمائڈ ڈرافٹ (مقامی کرنسی) اور سکیورٹی ڈپازٹ رسیدوں کی منسوخی اور ڈیپلیٹ جاری کرنے کے چارجز وہی ہوں گے جو بینکرز کے چیک کیلئے بیان کئے گئے ہیں۔
- فی الحال RTGS ٹرانزیکشنز SBP کی ہدایات کے مطابق مفت ہیں۔ مستقبل میں تبدیلیاں ہوں تو فوراً لاگو ہوں گی۔
- فریق ثالث اکاؤنٹس کیلئے RTGS فنڈ منتقلی کی تکمیل کیلئے 30 منٹ عمل درآمد کا وقت درکار ہوگا۔ چارجز کا حساب RTGS ٹرانزیکشن کے عمل درآمد کے وقت (MT-103) کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

v	راست (SNBL برائے سے OTC ٹرانسفر)	مفت
vi	آن لائن بینکنگ انٹرنیٹ بینک ڈپازٹ/ واپس لینا: 500,000/- روپے تک 500,000/- روپے سے زیادہ	مفت مفت
vii	کلیرنگ اینڈ کلکشن (a) لاجسٹک (آؤٹ ورڈ) کے وقت اسی دن NIFT کے ذریعے کلیرنگ (b) لاجسٹک (آؤٹ ورڈ) کے وقت اسی دن NIFT کے ذریعے کلیرنگ (c) کلیننگ کمیشن (بشمول چیکس)	-/600 روپے فی دستاویز -/350 روپے فی دستاویز
	1- ہماری اپنی برانچوں کے ذریعے 2- دیگر بینکوں کی برانچوں کے ذریعے	0.30% یا کم سے کم -/100 روپے اور زیادہ سے زیادہ -/5,000 روپے علاوہ ڈاک/ کوریئر چارجز 0.35% یا کم سے کم -/100 روپے اور زیادہ سے زیادہ -/5,000 روپے علاوہ ڈاک/ کوریئر چارجز اور ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز اصل پر
D	مستقل ہدایات کی فہمیں:	
	a- مستقل ہدایات کی فہمیں ترسیلات پر عائد معمول کے چارجز کے علاوہ وصول کی جائے گی، اگر قابل اطلاق ہو۔	IPKR کا وٹس کیلئے -/300 روپے فی ٹرانزیکشن IFCY کا وٹس کیلئے فی ٹرانزیکشن -/4 امریکی ڈالر یا مساوی
E	سیکیورٹیز کی خرید و فروخت محفوظ ڈپازٹ میں اشیاء کی محفوظ قوت عمل اور محفوظ ڈپازٹ لاکرز	
i	شیر اور سیکیورٹیز کی خرید و فروخت	قیمت خرید یا لاگت کے پہلے -/10,000 روپے پر 0.15% یا کم از کم -/25 روپے اور -/10,000 روپے سے زیادہ کی رقم پر 0.10% یا کم از کم -/100 روپے
نوٹ:		
1- درج بالا چارجز بروکرینج کے علاوہ ہوں گے۔		
2- نئی فلوئڈ سیکیورٹیز کی خریداری پر کمیشن وصول نہیں کیا جائے گا، اگر یہ حکومت/حکومتی ایجنسیوں اور مسکراہمیز کی جانب سے نئے شہری فلوئڈیشن پر واجب الادا ہو۔		
3- جب شیراز/سیکیورٹیز کی خرید و فروخت کے آرڈر بینک کے دیگر دفاتر سے تکمیل پذیر ہوں، تمام اتفاقی اخراجات، جیسے ڈاک، بٹکافل/انشورنس کے چارجز وغیرہ، کمیشن/بروکرینج چارجز کے علاوہ وصول کئے جائیں گے۔		
ii	محفوظ قوت عمل میں موجود شیر اور سیکیورٹیز پر رقم نکالنے کی فہمیں (رقم نکالنے کے وقت وصول کی جائے گی)	-/10,000 روپے کی ادا شدہ ظاہری قدر پر 0.25% تک، کم از کم -/50 روپے اور -/10,000 روپے سے زیادہ کی رقم پر 0.125% کم از کم -/100 روپے
iii	سرکاری سیکیورٹیز پر رقم نکالنے کی فہمیں (جہاں پر شیر اور سیکیورٹیز کی فروخت محفوظ قوت عمل سے کی جائے، یا تو شیر اور سیکیورٹیز کی فروخت پر کمیشن ہو، جیسا کہ آئٹم (i) کے تحت دکھایا گیا ہے یا پھر رقم نکالنے کی فہمیں ہو جیسا کہ آئٹم (ii) اور (iii) میں دکھایا گیا ہے، جو بھی زیادہ ہو، اسے وصول کیا جائے گا، لیکن دونوں وصول نہیں کئے جائیں گے	-/10 روپے فی اسکرپ
iv	ڈیویڈنڈ کے وصولی چارجز	وصول کردہ/ادا شدہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر 0.35% کم از کم -/25 روپے
v	سرکاری سیکیورٹیز کے سبادلے، تجدید، استحکام یا ذیلی تقسیم کیلئے گورنمنٹ سیکیورٹیز کا اجراء	-/25 روپے فی اسکرپ
vi	سیف ڈپازٹ کی اشیاء سیف ڈپازٹ کی اشیاء کی فہمیں ایڈوانس یا ہر سہ ماہی کے آغاز پر وصول کی جائے گی (a) باکس اینڈ پیکیجیز (b) لفافے	-/300 فی سہ ماہی -/250 فی سہ ماہی
	محفوظ ڈپازٹ لاکرز (a) کرائے پر لاکر جمع چابی (Key) ڈپازٹ (i) چھوٹے لاکرز (ii) درمیانے لاکرز (iii) بڑے لاکرز	کرایہ چابی (Key) ڈپازٹ فی لاکر -/6,500 روپے سالانہ -/8,000 روپے سالانہ -/10,500 روپے سالانہ -/5,000 روپے -/5,000 روپے -/5,000 روپے
نوٹ: کرایہ مدت کے آغاز میں پیشگی وصول کیا جائے گا۔		
چابی (Key) ڈپازٹ لاکر کی الائنمنٹ کے وقت پیشگی وصول کیا جائے گا اور واجب الادا کرائے کے تصفیے کے بعد ختم کرنے کے وقت قابل واپسی ہوگا (اگر کوئی ہے)		
	(b) لاکرز کو ڈونے کے چارجز	اصل قیمت کے علاوہ -/2,500 روپے فی لاکر
	(c) کرائے کی تاخیر سے ادائیگی پر چارجز (اگر تجدید کے 30 دن اندہر کرایہ نہیں ادا کیا جاتا)	لاکر کے واجب الادا کرائے کا 10%

(F)	فراہمی کے متبادل ذرائع (ADC Channels)			
i	سوئیری ڈیٹ کارڈ (ماسٹر کارڈ/ پے پاک)	اسٹینڈرڈ	گولڈ	پے پاک
	(a) سالانہ فیس - پرائمری (LCY)	3,500/- روپے	4,500/- روپے	9,000/- روپے
	(FCY)	10/- ڈالر	15/- ڈالر	
	سیلینڈری			6,000/- روپے
	(b) کارڈ کی تبدیلی کی فیس (LCY)	2,500/- روپے	3,000/- روپے	8,500/- روپے
	(FCY)	10/- ڈالر	15/- ڈالر	
	سیلینڈری			6,000/- روپے
	(c) سوئیری بینک اسے ٹی ایم سے کیش نکالنا	کوئی نہیں		
	(d) سوئیری بینک کے علاوہ کسی اسے ٹی ایم سے کیش نکالنا	35/- روپے فی ٹرانزیکشن (بشمول FED)		
	(e) Cirrus گولڈ کے حامل بین الاقوامی اسے ٹی ایمز سے کیش نکالنا	500/- روپے فی ٹرانزیکشن یا نکالی گئی رقم کا 3.5% جو بھی زیادہ ہو		
ii	(f) مقامی جائے فروخت کے ٹرمینل (POS) پر خریداری خدمات کا حصول	کوئی نہیں		
	(g) بین الاقوامی آن لائن اور جائے فروخت کے ٹرمینل (POS) ٹرانزیکشنز	500/- روپے فی ٹرانزیکشن یا نکالی گئی رقم کا 4.50% جو بھی زیادہ ہو		
	* بین الاقوامی آن لائن اسٹورز/ POS مرچنٹ آؤٹ لیس / اسے ٹی ایمز پر پاکستانی روپے میں کی جانے والی ڈیٹ کارڈ کی ٹرانزیکشنز جو تا جریغی کرنسی میں ادا کرتے ہیں، وہ بھی مارکیٹ کی موجودہ کرنسی کی تبدیلی کی شرحوں کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا بین الاقوامی چارجرز کے ساتھ شروٹ ہوں گی۔			
iii	(h) سوئیری بینک کی برانچوں میں اسے ٹی ایم/ انٹرنیٹ/ موبائل فون بینکنگ کے ذریعے فنڈ منتقل کرنا	مفت		
	i بیکنگ کے درمیان فنڈ ٹرانسفر بذریعہ اسے ٹی ایم/ انٹرنیٹ/ موبائل / فون بینکنگ	ماہانہ - 25,000/- روپے تک - 0/- روپے 25,000/- روپے سے زیادہ پر 0.1% یا -200/- روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو (بشمول FED)		
	(j) RAAST ٹرانسفر (انٹرنیٹ/ موبائل بینکنگ)	مفت		
	(k) اسے ٹی ایمز کے ذریعے بٹلس معلوم کرنا i۔ پاکستان میں واقع اسے ٹی ایمز (1 لنک اسے ٹی ایم) ii۔ پاکستان سے باہر واقع اسے ٹی ایمز	4/- روپے 2/- امریکی ڈالر کے مساوی پاکستانی روپے		
	(l) متنازع ٹرانزیکشن پر عائشی کے چارجرز	فی کس - 500/- امریکی ڈالر کے مساوی پاکستانی روپے یا اصل جو بھی زیادہ ہو		
	(m) مقامی اور بین الاقوامی متنازع ٹرانزیکشن جھوٹے متنازع کے چارجرز	500/- روپے برائے مقامی متنازع ٹرانزیکشن 1,000/- روپے برائے بین الاقوامی متنازع ٹرانزیکشن یا اصل جو بھی زیادہ ہو		
	(n) ای کامرس سیشن ایکٹیویشن	100/- روپے فی سیشن		
	(o) 1 بذریعہ 1 لنک ادائیگی کی خدمات (تعلیمی ادارے)	اسکول فیس - 25/- روپے فی ٹرانزیکشن (بشمول FED)		
	(p) اسے ٹی ایم رسید پر بٹنگ (تمام مقامی سوئیری بینک اور 1 لنک اسے ٹی ایمز سے)	4/- روپے (بٹلس انکوائری، فنڈ ٹرانسفر، IBFT سروسز اور بٹلس جیکٹ)		
	(q) اسے ٹی ایم سے اکاؤنٹ منی اسٹیٹمنٹ	5/- روپے فی اسٹیٹمنٹ		
ii	ڈیجیٹل بینکنگ (انٹرنیٹ، موبائل اور فون بینکنگ) رجسٹریشن بمع بٹلس کی معلومات، اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ و کینا، موبائل ٹاپ آپس اور پینلٹی بلز کی ادائیگی	مفت		
iii	ایس ایم ایس الٹ چارجرز (a) تمام ڈیجیٹل / متبادل ڈیجیٹل ذرائع سے ٹرانزیکشن (b) بیرونی (آؤٹ ورڈ) تصفیاتی (کلیئرنگ) ٹرانزیکشنز (c) دیگر سروسز / ابرا انچوں کے درمیان ٹرانزیکشنز	تمام کسٹمرز کیلئے مفت (سبسکر ایمرز اور غیر سبسکر ایمرز) تمام کسٹمرز کیلئے مفت (سبسکر ایمرز اور غیر سبسکر ایمرز) افراد کے پرسنل اکاؤنٹ پاکستانی روپی اور FCY 250/- روپے ماہانہ 0.80/- ڈالر ماہانہ یا دیگر FCY میں مساوی تمام کاروبار اور اداروں کے اکاؤنٹس بشمول واحد ملکیت پاکستانی روپی اور دیگر FCY 425/- روپے ماہانہ 1.75/- ڈالر ماہانہ یا دیگر FCY میں مساوی		
G سرمایہ کاری پورٹ فویو سکیورٹیز (IPS) اکاؤنٹ				
i	سرمایہ کاری پورٹ فویو سکیورٹیز ٹرانزیکشنز (صلوک)	1,500/- روپے فی ٹرانزیکشن (فروخت یا خرید یا منتقلی)		
ii	صلوک کو چین کی ادائیگی	0.025% ششماہی بنیاد پر فیس ویلیو پر یا -1,000/- روپے ماہانہ، جو بھی زیادہ ہو		
iii	IPS گوشوارے	ہر سہ ماہی کے بعد مفت لیکن درخواست پر -100/- روپے وصول کئے جائیں گے		
H اجلاخ				
i	(a) سوئٹ چارجرز مختصر بیانات کمل متن کے حامل LCS وغیرہ	1,000/- روپے 2,000/- روپے		
	(ii) ڈاک کے چارجرز			

	(a) ملکی	-/200 روپے یا اصل، جو بھی زیادہ ہو
	(b) بیرون ملک	-/300 روپے یا اصل، جو بھی زیادہ ہو
iii	کوریز چارجز (a) ملکی	-/200 روپے یا اصل، جو بھی زیادہ ہو
	(b) بیرون ملک	-/5,500 روپے یا اصل، جو بھی زیادہ ہو
	(c) فیکس چارجز	-/30 روپے فی صفحہ
I	برائچ بینکنگ	
i	چیک بک کی لاگت (a) پاکستانی اکاؤنٹس	-/30 روپے فی ورق یا دوسری کرنسیوں میں اس کے مساوی
ii	فارم C، پچیک بک کا اجراء	-/625 روپے فی چیک بک یا دیگر کرنسیوں میں مساوی صرف ان اکاؤنٹس پر وصول کئے جائیں گے جہاں چیک بک کا اجراء بطور پروڈکٹ فیچر یا دوسری صورت میں مفت ہو۔
iii	خصوصی طور پر پرنٹ کی گئی چیک بک	اصل پر، اگر ان مصنوعات کیلئے خصوصی طور پر پرنٹ کی گئی چیک بک کی درخواست کی جاتی ہے جہاں چیک بک مفت ہوتی ہے۔
iv	چیک کی ادائیگی روکنا	کم از کم -/800 روپے فی چیک زیادہ سے زیادہ -/1,600 روپے فی ہدایت (کل پنکس کی صورت میں)
v	اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ (a) 6 ماہ کیلئے اکاؤنٹس کا ڈبلیو ایٹ اسٹیٹمنٹ (بشمول میسرز) (b) اکاؤنٹ کا ای اسٹیٹمنٹ	-/35 روپے فی اسٹیٹمنٹ (بشمول FED) مفت
vi	FCY کیش ڈپازٹ کے چارجز ایکمیجھ کمپنیز کے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں، USD، EUR اور GBP اور UAE کرنسی جمع کروانا	کراچی کی برانچوں کے علاوہ %0.70 کراچی کی برانچوں پر %0.45 کم از کم -/700 روپے
vii	ریکارڈنگ ٹرانزیکشن / نقل (a) فی ٹرانزیکشن پر تار ریکارڈنگ ٹرانزیکشن (فی انسٹرومنٹ / چیک یا ڈپازٹ سلسلہ) (b) ڈبلیو ایٹ ہدایت (advice) جو 1 سال سے زیادہ پرانی ہو (c) غمرانی کرنے والا کیمرہ / ریکارڈنگ حاصل کرنا (d) CNIC کے علاوہ نوٹ کو اپنی کے چارجز	1 سال تک -/450 روپے 3 سال تک -/600 روپے 3 سال سے زائد -/1,200 روپے -/75 روپے فی ہدایت -/500 روپے فی درخواست قانون نافذ کرنے والے اداروں کیلئے چارجز نہیں -/10 روپے فی کاپی
viii	ہمیں چیک دیا گیا اور نا کافی فنڈز کی وجہ سے بلا معاوضہ واپس کر دیا گیا {(کلیئرنگ، اسی دن کلیئرنگ، انٹرسٹی کلیئرنگ اور ان ورڈ کلیئرش {IBC})}	-/850 روپے یا -/850 روپے سے کم کوئی بھی رقم نا کافی فنڈز کی صورت میں (بشمول NIFT چارجز)
ix	ہمیں چیک دیا گیا اور نا کافی فنڈز کی وجہ سے بلا معاوضہ واپس کر دیا گیا (کلیئرنگ کاؤنٹر اوپننگ ٹرانسفر)	-/700 روپے یا -/700 روپے سے کم کوئی بھی رقم نا کافی ہونے کی صورت میں
x	کنزومر اجارہ فنانس کی قسط کی وصولی کیلئے ہمارے ذریعے چیک کلیکشن کی کارروائی کی گئی اور نا کافی فنڈز کی وجہ سے بغیر ادائیگی کی واپسی ہوئی	-/700 روپے یا -/700 روپے سے کم کوئی بھی رقم نا کافی ہونے کی صورت میں
xi	آؤٹ ورڈ ریزرین چیک کی وجہ سے یاد دہانی کا لیٹر یا ریزرین چیک بھیجتا	-/125 ہر لیٹر کیلئے علاوہ کوریئر چارجز
xii	ڈاک روکنے کی ہدایت کے چارجز	-/1200 روپے سالانہ (بیٹھی طور پر، ڈاک روکنے کے صرف موجودہ کسٹرز کیلئے)
xiii	تصدیق کا اجراء (a) اکاؤنٹ اینٹی فیکٹنس (b) بینکس کی تصدیق خود / آڈیٹرز (c) کریڈٹ کی المیت (d) فنانسنگ بینکس (e) ٹیکس اور زرکو ڈی کنوٹی کے علاوہ کوئی بھی دوسری قسم	برائچ سے: فی سرٹیفیکیٹ -/500 روپے ڈیجیٹل جوبیلو سے: مفت
xiv	متحدہ الی تقسیم کی خدمت پر آجر سے چارجز (بینک کے ساتھ کسی رسمی انتظام کے بغیر) سرکاری / نیم سرکاری اداروں اور مسلح افواج کی تنخواہوں پر چارجز لاگو نہیں ہوں گے	سوئیری مستقیم ایپلائی بینکنگ پروڈکٹ چارجز کیلئے صرف نوٹیشن شامل کی جائیگی سوئیری مستقیم ایپلائی بینکنگ کسٹرز کیلئے چارجز کا فیصلہ معاہدے کے مطابق ہوگا

xv	کسٹمر کی درخواست پرا کاؤنٹ بند کرنے کے چارجر (PLS سیولنگ، پشٹن، BBA اور آسان اکاؤنٹ پر کوئی چارجر نہیں)	-/300 روپے یا جو بھی کم از کم بیلنس دستیاب ہو۔ (اکاؤنٹ کے بقیہ بیلنس کیلئے جاری ہونے پر فیکٹر چیک کے اجراء کے چارجر اضافی ہوں گے)۔ 3 ڈالر یا دیگر کرنسیوں میں مساوی
xvi	کوئی آؤٹ آف پاکٹ اخراجات یا کوئی بھی ٹرانزیکشن جو اس SOC میں شامل نہیں ہوں	اصل قیمت
xvii	SECP آن لائن پورٹل سروس چارجر	اصل قیمت پر جو اس وقت ہیں: -/2,200 روپے برائے پبلک سیکٹر -/1,100 روپے برائے پرائیویٹ سیکٹر
xviii	ٹادرا سکیسٹن سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے چارجر	اصل قیمت
xix	تمام قرضوں اور فنانسنگ دستاویزات کے اسٹامپ پیپر/چسپا ہونے والے اسٹیپ کے چارجر (SBL کا عملخانہ تک کیلئے سروس چارجر سے مستثنیٰ ہے، تاہم اسٹامپ پیپر/چسپا ہونے والے ڈاک ٹکٹ کی قیمت اصل پر وصول کی جائے گی)	اصل قیمت اسٹامپ پیپر/چسپا ہونے والے ڈاک ٹکٹوں کی اصل قیمت پر %9.5 اضافی سروس چارجر
xx	تمام مصنوعات کیلئے ذیل میں بیان کردہ مطلوبہ کم از کم بیلنس برقرار نہ رکھنے پر اکاؤنٹ میینٹیننس/سروس چارجر	
	a- جاری اکاؤنٹ (ابتدائی ڈپازٹ روپے -/100)	کوئی نہیں
	b- راحت اکاؤنٹ (ابتدائی ڈپازٹ روپے -/100)	کوئی نہیں
	c- آسان اکاؤنٹ (ابتدائی ڈپازٹ روپے -/100)	کوئی نہیں
	d- لیڈر اکاؤنٹ (ابتدائی ڈپازٹ روپے -/100)	کوئی نہیں
	e- پشٹرا اکاؤنٹ (ابتدائی ڈپازٹ روپے -/0)	کوئی نہیں
	f- بچت اکاؤنٹ (ابتدائی ڈپازٹ روپے -/100)	کوئی نہیں
	g- سہارا اکاؤنٹ (ابتدائی ڈپازٹ روپے -/0)	کوئی نہیں
	h- سیکسٹر اکاؤنٹ (ابتدائی ڈپازٹ روپے -/100)	کوئی نہیں
	i- منافع اکاؤنٹ (ابتدائی ڈپازٹ روپے -/100)	کوئی نہیں
	j- میعاد اکاؤنٹ (اکاؤنٹ کھولنے اور رکھنے کیلئے کم از کم بیلنس -/25000)	کوئی نہیں
	k- ایپلائی بینکنگ (ابتدائی ڈپازٹ روپے -/0)	کوئی نہیں
	l- فری لانس اکاؤنٹ (ابتدائی ڈپازٹ روپے -/0)	کوئی نہیں
	m- ریمیٹ ڈائریکٹ اکاؤنٹ (ابتدائی ڈپازٹ روپے -/0)	کوئی نہیں
	n- فارکس پلس اکاؤنٹ (ابتدائی ڈپازٹ روپے -/0)	کوئی نہیں
	o- فارن کرنسی اکاؤنٹ (ابتدائی ڈپازٹ ڈالر، پاؤنڈ، یورو -/100 جاپانی یں -/5,000)	کوئی نہیں
J	کیش منیجمنٹ سروسز - کارپوریٹ اور سرمایہ کاری بینکنگ	
i	سویری ٹرانزیکٹ	
	(a) ادائیگی اور پورٹنگ	کسٹمر کے ساتھ سودے/معاہدے کے مطابق
	(b) وصولیوں/اداء وصولیوں کی منیجمنٹ سروسز	کسٹمر کے ساتھ سودے/معاہدے کے مطابق
	(c) اجراء کا میٹیکر	کسٹمر کے ساتھ سودے/معاہدے کے مطابق
	(d) ڈیویڈنڈ واریٹس کی ادائیگی	کسٹمر کے ساتھ سودے/معاہدے کے مطابق
	(e) جاری ہدایات	کسٹمر کے ساتھ سودے/معاہدے کے مطابق
نوٹ:		
1-	تمام ایسے وصولی اکاؤنٹس یعنی عدم چیک کے حامل اکاؤنٹس جہاں سے جاری ہدایات کے مطابق بیلنسز / فنڈز کو کسٹمر کے مرکزی وصولی اکاؤنٹ میں روزانہ یا میعاد بنیاد پر منتقل کیا جاتا ہے، کو مذکورہ سروس چارجر سے استثنیٰ حاصل ہوگا۔	
2-	جو اکاؤنٹس (i) طلبہ (ii) زکوٰۃ کے مستحقین، اور (iii) سرکاری / نیم سرکاری اداروں کے ملازمین کی جانب سے تنخواہ اور پینشن کے مقاصد کیلئے بھرتی مرحوم ملازمین کی بیویوں / بیٹے جو خاندانی پیشین / خیر خواہی فنڈ وغیرہ کے اہل ہوں، انہیں بھی سروس چارجر سے استثنیٰ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ کارپوریٹ سوسائٹیوں، خیر خواہی فنڈز، خیراتی اور سماجی جملاتی کے اداروں کو بھی استثنیٰ حاصل ہوگا۔	
3-	جو طلبہ اپنے تعلیمی اداروں کی فیس براہ راست فیس وصولی اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں ان سے بھی کوئی چارجر وصول نہیں کئے جائیں گے۔	
4-	براؤنچر کو تنخواہ کیا جاتا ہے کہ اس چند سروسز کے علاوہ تمام بینکنگ سروسز پر FED لاگو ہے۔ FED کی وصولی متعلقہ صوبوں میں لاگو شدہ ریش کے مطابق کی جائے گی۔	
5-	بینک کے شیڈول آف چارجرز کی طے شدہ مدت کے دوران انتظامیہ کی صوابدید یا ریگولیٹری ہدایات پر یا کسٹمر کے ساتھ انتظامات کے مطابق قیمتوں میں کمی، اضافہ یا معاف کیا جاسکتا ہے۔	
6-	پاکستانی روپے میں متعین چارجر FCY اکاؤنٹ سے مساوی غیر ملکی کرنسی میں ڈیبت کئے جائیں گے، جہاں قابل اطلاق ہو۔	

ii	فانڈنگ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ	
	(a) ڈیویڈنڈز کی ادائیگی کیلئے بینک کا تقرر اور انویسٹمنٹ کی واپسی پر عملدرآمد جبکہ SBP نے اپنے ریکارڈز میں شیئرز درج کر لئے ہوں	-/3,000 روپے مقررہ
	(b) فانڈ انویسٹمنٹ کمپنی کی بینڈنگ کے چارجز (داخلی/خارجی)	0.18% کم از کم -/3,000 روپے
	(c) غیر ملکی مالیاتی اداروں سے پاکستان میں فنانس کے ذریعے حاصل کردہ نجی غیر ملکی کرنسی اسلامی فنانسنگ کے سلسلے میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ معاہدے کی رجسٹریشن	-/3,750 روپے مقررہ بطور بینڈنگ اور سروس چارجز

K	اسٹاف بیلری اکاؤنٹس	
	(a) مفت چیک بک کا اجراء	مفت
	(b) سوئیری ڈیپٹ ماسٹر کارڈ - سالانہ فیس	مفت
	(c) سوئیری ڈیپٹ ماسٹر کارڈ - چپ منٹیننس فیس (پہلے اور بعد میں آنے والے سال)	اسٹینڈرڈ گولڈ پلاٹینم پے پاک
	صرف ماسٹر کارڈ یا پے پاک	-/3,500 روپے -/4,500 روپے -/9,000 روپے -/2,700 روپے
	سلیمنٹری	-/6,000 روپے
	(d) بینکرز چیک کا اجراء	مفت
	(e) آن لائن بینکنگ سروس	مفت
	(f) SMS الارٹ کی سہولت	انفرادی اکاؤنٹس روپے اور غیر ملکی کرنسی ماہانہ -/250 روپے
	(g) اکاؤنٹ بند کرنا	مفت
	(h) لاکر کرایہ	صرف چھوٹے لاکرز پر 50% رعایت

L	جاری مستقیم	
	”سوئیری مستقیم جاری اکاؤنٹ“ میں درج ذیل خدمات مفت دستیاب ہیں۔	
	• بینکرز چیک کے اجراء کے چارجز	ماہانہ 3 بینکرز چیک کا اجراء -/25,000 روپے ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے پر مفت
	• چیک بک کے چارجز	پہلی چیک بک مفت (10 صفحات) بعد کی چیک بک -/25,000 روپے ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے پر مفت
	• آن لائن بینکنگ چارجز	
	• PayPak ڈیپٹ کارڈ کے پہلے سال کی سالانہ فیس -/25,000 ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے پر مفت ہوگی، اگر اوسط بیلنس برقرار نہیں ہے تو موجودہ شیڈول آف چارجز کے مطابق چارجز لاگو ہوں گے۔	
	• PayPak ڈیپٹ کارڈ کے بعد والوں کی سالانہ فیس -/25,000 سالانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے پر مفت ہوگی، اگر اوسط بیلنس برقرار نہیں ہے تو موجودہ شیڈول آف چارجز کے مطابق چارجز لاگو ہوں گے۔	
	• PayPak ڈیپٹ کارڈ کے علاوہ مفت خدمات حاصل کرنے کیلئے کوئی کم از کم بیلنس درکار نہیں ہے۔	

M	راحت مستقیم	
	”سوئیری مستقیم راحت اکاؤنٹ“ میں درج ذیل خدمات مفت دستیاب ہیں۔	
	• بینکرز چیک کے اجراء کے چارجز	ماہانہ 3 بینکرز چیک کا اجراء -/25,000 روپے ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے پر مفت
	• چیک بک کے چارجز	پہلی چیک بک مفت (10 صفحات) بعد کی چیک بک -/25,000 روپے ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے پر مفت
	• آن لائن بینکنگ چارجز	
	• ایس ایم ایس الارٹ	
	• اکاؤنٹ ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ	
	• PayPak ڈیپٹ کارڈ کے پہلے سال کی سالانہ فیس -/25,000 ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے پر مفت ہوگی، اگر اوسط بیلنس برقرار نہیں ہے تو موجودہ شیڈول آف چارجز کے مطابق چارجز لاگو ہوں گے۔	
	• PayPak ڈیپٹ کارڈ کے بعد والوں کی سالانہ فیس -/25,000 سالانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے پر مفت ہوگی، اگر اوسط بیلنس برقرار نہیں ہے تو موجودہ شیڈول آف چارجز کے مطابق چارجز لاگو ہوں گے۔	
	• PayPak ڈیپٹ کارڈ کے علاوہ مفت خدمات حاصل کرنے کیلئے کوئی کم از کم بیلنس درکار نہیں ہے۔	

	نوٹس:	
	(a) تمام ایسے وصولی اکاؤنٹس یعنی عدم چیک کے حامل اکاؤنٹس جہاں سے جاری ہدایات کے مطابق بیلنسز / فنڈز کو کسٹمر کے مرکزی وصولی اکاؤنٹ میں روزانہ یا عادی بنیاد پر منتقل کیا جاتا ہے کو مذکورہ سروس چارجز سے استثنیٰ حاصل ہوگا۔	
	(b) جو اکاؤنٹس (i) طلبہ (ii) ذکاوت کے مستحقین، اور (iii) سرکاری / نیم سرکاری اداروں کے ملازمین کی جانب سے متجواہ اور عیشیوں کے مقاصد کیلئے بشمول مرحوم ملازمین کی بیوائیں / بچے جو خاندانی عیشی / خیر خواہی فنڈز وغیرہ کے اہل ہوں، انہیں بھی سروس چارجز سے استثنیٰ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ کارپوریٹ سوسائٹیوں، خیر خواہی فنڈز، خیراتی اور سماجی بہلائی کے اداروں کو بھی استثنیٰ حاصل ہوگا۔	
	(c) جو طلبہ اپنے تعلیمی اداروں کی فیس براہ راست وصولی اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں ان سے بھی کوئی چارجز وصول نہیں کئے جائیں گے۔	
	(d) برانچز کو تجویز کیا جاتا ہے کہ تمام بینکنگ سروسز، چند سروسز کے علاوہ، پر FED لاگو ہے۔ FED کی وصولی متعلقہ صوبوں میں لاگو شدہ ریش کے مطابق کی جائے گی۔	
	(e) بینک کے شیڈول آف چارجز کی طے شدہ مدت کے دوران انتظامیہ کی صوابدید یا ریگولیٹری ہدایات پر قیمتوں میں کمی، اضافہ یا معاف کیا جاسکتا ہے۔	